



**AWỌN ADUA TI WỌN JẸ
AABO FUN MUSULUMI
LATI INU AL-QUR'AANI ATI SUNNA**

**TI SHAIK
SAID BN ALI BN WAHF AL-QAHTAANI**

**EYI TI A TUMỌ SI YORUBA LATI OWO:
Sharafuddeen Gbadebo Raji**

Ni abe afojusi igbimọ t'o n se akoso eto titẹ iwe ati titan an
ka ni Ministiri yii

**AWỌN ADUA TI WỌN JẸ
AABO FUN MUSULUMI
LATI INU AL-QUR'AANI ATI SUNNA**

**TI SHAIK
SAID BN ALI BN WAHF AL-QAHTAANI**

**EYI TI A TUMỌ SI YORUBA LATI ỌWỌ:
Sharafuddeen Gbadebọ Raji**

**Ni abẹ afojusi igbimọ t'ọ n se akoso eto titẹ iwe ati titan an
ka ni Ministiri yii**

1429. H.

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ١٤٢٧هـ

ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
القحطاني ، سعيد

حصن المسلم . - الرياض .

١٦٨ ص ؛ ١٢ × ١٧ سم .

ردمك : ٥-٣٧٨-٢٩-٩٩٦٠

(النص باللغة اليوربا)

١- الأدعية والأوراد

أ- العنوان

٢٢/٣٢٨٦

ديوي ٩٣ ، ٢١٢

رقم الإيداع : ٢٢/٣٢٨٦

ردمك : ٥-٣٧٨-٢٩-٩٩٦٠

الطبعة الثامنة

١٤٢٩هـ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**Mo beře ni oruko Qlohun Qba Alaaanujulo
Aladipele-ęsan-rere.**

Dajudaju ti Qlohun ni ope i se, a n fi ope fun Un, a si n toro aranse Re, a si n toro idarijin lodu Re, a si n fi Qlohun Naa wa isadi kuro nibi awon aburu awon emi wa, ati nibi awon aidaa awon ise owo wa, eniken ti Qlohun ba fi mona ko si enikan ti o le si i lona, beę ni eniyowu ti Qlohun ba si lona ko si enikan ti o le fi ona mo on. Mo jeri pe ko si oba kan ti o to lati josin fun lododo yatou si Qlohun nikan soso, ko si orogun kan fun Un, mo si tun jeri pe dajudaju Muhammad eru Qlohun ni i se, ojise Re si ni pelu, ike Qlohun ati ola Re ni ola ti o po, ki o maa ba oun ati awon ara ile re, pelu awon Sahaabe re, ati awon ti won n tele won pelu daadaa titi di ojo igbende.

Leyin naa: Eleyii je iwe kekere kan ti mo fa yo lati inu iwe mi [ti mo so ni]:

الذکر والدعاء والعلاج بالرقی من الكتاب والسنة

AL-DZIKRU WA -D-DUAA'U WA -L-ILAAJU BI -R-RUQAA MINA -L-KITAABI WA -S-SUNNA. "Awon iranti Qlohun ati Adua ati iwosan pelu Al-Ruqyah lati inu Al-Qur'aan ati Sunna". Mo yo eyi ti o je ipin awon iranti Qlohun ninu re, ki o le baa se e maa mu rajo.

Ati pe dajudaju mo da ohun ti mo ko sinu iwe yii duro sori awon gbolohun iranti Qlohun "Al-dziki" nikan, pelu didaruko okan tabi meji ninu awon tira ti won ti gbe e jade eyi ti [ekunre re] n be ninu ipile iwe yii, nitori naa enikeni ti o ba n fe lati mo Sahaabe "ti o gba egbawa-oru kan wa", tabi o fe lati ni alekun imo kan nipa ona ti egbawa-oru kan gba wa, ki onitoun o yaa pada lo sidi ipile iwe yii.

Mo n be Qlohun Oba t'O ga t'O si gbun-un-gbun pelu awon oruko Re ti won dara ju, ati awon iroyin Re ti won ga ju pe ki O se e ni ohun ti a se nitori oju Re alaponle nikan, ki O si fi i se mi ni anfaani ni oju aye mi ati leyin iku mi, ki O si fi i se eni ti o ba ka a ni anfaani, tabi eni ti o ba te e, tabi o se agbateru titan an ka; dajudaju Qlohun Oba-mimo ni Olukapa atise be, Oun Naa si ni Alagbara lori re.

Ike ati ola Qlohun ki o maa ba Anabi wa Muhammad ati awon ara ile re ati awon Sahaabe re, ati awon ti won n tele won pelu daadaa titi di ojo esan.

**

*

OLA TIN BE FUN SISE IRANTI OLOHUN "AL-DZIKR"

Olòhun Ọba t'O ga sọ pe:

﴿ مَا ذُكِرْتُمْ بِهِ وَلَمْ تُكْفِرُوا بِهِ ﴾ [سورة البقرة : ١٥٢]

. [البقرة : ١٥٢]

« E maa se iranti Mi, Emi yoo maa ranti yin, e si maa dupe fun Mi, e ma se se aimoore si Mi ». Qur'aan [2:152].

Olòhun tun sọ pe:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ [سورة الأحزاب : ٤١]

« Eyin olugbagbo-ododo, e maa se iranti Olòhun ni iranti pupọ ». Qur'aan [33:41].

Olòhun tun sọ pe:

﴿ وَالذِّكْرِ كَثِيرٌ وَالذِّكْرُ أَكْبَرُ ﴾ [سورة الأحزاب : ٣٥]

« Ati pe awon okunrin ti won n se iranti Olòhun loṣoṣo ati awon obinrin ti won n se iranti Re loṣoṣo, Olòhun ti pese aforijin ati eṣan nla kale fun won ». Qur'aan [33:35].

Olòhun t'O ga tun sọ pe:

﴿ وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْفُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴾ [سورة الاعراف : ٢٠٥]

. [٢٠٥]

« Maa se iranti Oluwa re ninu okan re, ni ti irera-eni-sile pelu irababa, ati ni ti iberu, lai pariwo ni owuro-kutu ati ni irole, ma se je okan ninu awon olugbagbe». Qur'aan [7:205].

Ojise Olohun "ike ati ola Olohun k'o maa ba a" so pe:

« مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت »
متفق عليه.

« Apejuwe eni ti n se iranti Oluwa re ati eni ti ki i se iranti Re, dabi apejuwe oku ati alaaye ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

Ojise Olohun "ike ati ola Olohun k'o maa ba a" tun so pe:

« ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ »
قالوا: بلى. قال: « ذكر الله تعالى », رواه الترمذي وابن ماجه.

« E o yoo wa je ki n fun yin niro nipa eyi ti o loore ju ninu awon ishe yin, ti o si je eyi ti o mo ju loo Olohun Olowo yin, ti o si se wi pe ohun ni yoo se agbega ipo fun yin ju, ti o si loore fun yin ju ki e maa fi wura ati fadaka t'ore lo, ti o si loore fun yin ju ki e kolu awon ota yin lo, lati maa pa won, ki awon naa o si maa pa yin bi?. Awon Sahaabe ni: Beje ni. Ojise

Qlqhun "ike ati q̄la Qlqhun k'o maa ba a" wa dahun bayii pe: Ise naa ni: Sise iranti Qlqhun Q̄ba t'O ga "Al-dzikh"». At-Tirmidziyyu ati Ibn Maajah l'o gbe e jade.

Ojise Qlqhun "ike ati q̄la Qlqhun k'o maa ba a" tun so pe:

« يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شراً، تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إلي ذراعاً، تقربت إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة ». متفق عليه.

« Qlqhun Q̄ba t'O ga so pe: Emi A maa be nibi ero eru Mi si Mi, Emi A si maa be pelu re nigba ti o ba se iranti Mi, ti o ba se iranti Mi ninu ara re, Emi Naa yoo se iranti re ninu ara Mi, ti o ba si se iranti Mi laarin awon jama kan, Emi Naa yoo se iranti re laarin awon jama kan ti o loore ju awon ti o se iranti Mi laarin won lo, ati pe ti eru Mi ba sun mo Mi ni odiwon owo kan, Emi yoo sun mo on ni odiwon apa kan, be ni ti o ba sun mo Mi ni odiwon apa kan, Emi yoo sun mo on ni odiwon apa merin, ati pe ti o ba wa ba Mi l'eni ti n rin, Emi yoo lo ba a pelu iyara». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

Egbawa-oru tun wa lati odo Abdullahi omo Bus'r, "ki Qlqhun O yonu si i", o ni: Arakunrin kan

ni: Iwo Ojise Qlohun, dajudaju awon ofin esin Islam po fun mi, tori naa ko mi ni nnkan kan ti n o maa ro mo, Ojise Qlohun "ike ati o la Qlohun k'o maa ba a" ni:

« لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ». رواه الترمذي وابن ماجه.

« Ahon re ko gbodo ye ko si gbodo gbo nipa lile si sise iranti Qlohun "Al-dziker" ». At-Tirmidziyyu ati Ibn Maajah l'o gbe e jade.

Ojise Qlohun "ike ati o la Qlohun k'o maa ba a" tun so pe:

« من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: ﴿الم﴾ حرف، ولكن: ألف حرف، ولام

حرف، وميم حرف ». رواه الترمذي

« Enikeni ti o ba ka harafi kan ninu tira Qlohun Qba "Al-Qur'aan Alapone", esan daadaa kan n be fun un lori re, ati pe esan daadaa naa yoo je adipele iru re lona mewa, ki i se wi pe "ALIF -LAAM- MEEM" ni mo gba lero pelu harafi kan "ti o ni esan daadaa mewa", rara; sugbon "ALIF" harafi kan ni i se, "LAAM" harafi kan ni oun naa i se pelu, bakan naa "MEEM" harafi kan ni oun naa i se ». At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

Egbawa-oru tun wa lati odo Uqbah Ibn Aamir, 'ki Qlohun O yonu si i', pe: Ojise Qlohun "ike ati o la Qlohun k'o maa ba a" jade wa ba wa, nigba ti a

wa ni Suffah [aye kan ninu Masalasi Anabi ni ilu Madina], o si sọ pe:

« أَيْكُمْ يَحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَىٰ بَطْحَانَ أَوْ إِلَىٰ الْعَقِيقِ، فَيَأْتِي مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوِينَ فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلَا قَطِيعَةٍ رَحِمَ؟ »، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحِبُّ ذَلِكَ. قَالَ: « أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ، فَيَعْلَمُ، أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَثَلَاثَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثَ، وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ ». رواه مسلم.

« Ta ni n fe ninu yin lati maa jade ni afejumọ ni ojojumọ lo si Bat'haan tabi Aqeeq [aye meji kan ni ilu Madinah] ti yoo si tipase beẹ maa mu rakunmi meji ti won je abike-bokua-bokua wale lati ibe, laidese kan "nitori re", lai ko si ja okun ebi kan pelu?». Ni a ba dahun pe: Iwo Ojise Olohun, a n fe beẹ. O si sọ pe: « Nje enikan yin o yoo wa maa fi afejumọ wa si Masalasi lati wa mo, tabi lati wa maa ka aayah meji ninu tira Olohun t'O ga t'O si gboun-gbon "Al-Qur'aan" bi?, eleyii loore fun un ju rakunmi meji lo, beẹ ni kika aayah meta loore fun un ju rakunmi meta lo, bakan naa aayah merin loore fun un ju rakunmi merin lo ... ». Muslim l'o gbe e jade.

Ojise Olohun "ike ati ola Olohun k'o maa ba a" tun sọ pe:

« من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه، كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه، كانت عليه من الله ترة ». رواه أبو داود وغيره.

« Ẹnikẹni ti o ba jokoo ni aye kan lai kò se iranti Ọlọhun nibẹ -titi ti o fi dide kuro nibẹ-, abuku ni yoo jẹ tiẹ lati ọdọ Ọlọhun, ati pe ẹnikẹni ti o ba fi ẹyin lele ni ibikan ti kò si se iranti Ọlọhun nibẹ, abuku ni yoo jẹ tiẹ lati ọdọ Ọlọhun ». Abu-Daa'uud ati awọn miiran l'o gbe e jade.

Ojise Ọlọhun “ikẹ ati ọla Ọlọhun k'o maa ba a” tun sọ pe:


« ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه، ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم ». رواه الترمذي.

« Awọn kan kò ni i jokoo ni aye kan lai kò se iranti Ọlọhun nibẹ, lai kò si se asalatu fun Anabi wọn, afi ki o jẹ ibalejọ fun wọn -lọdọ Ọlọhun;-nitori naa ti O ba fẹ, O le fiya jẹ wọn, ti O ba si fẹ, O le dari jin wọn ». At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

Ojise Ọlọhun “ikẹ ati ọla Ọlọhun k'o maa ba a” tun sọ pe:

« ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة ». رواه أحمد وأبو داود.

« Kò si awọn kan ti wọn yoo dide kuro ni aye kan ti wọn ti jokoo, lai kò se iranti Ọlọhun nibẹ, afi ki idide wọn o jẹ idide kuro nidi ohun ti o jọ oku kẹtẹkẹtẹ, ati pe yoo jẹ ohun ibanujẹ fun wọn ». Ahmad ati Abu-Daa'uud l'o gbe e jade.



ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA JI

١ - « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ». متفق

عليه.

[AL-HAMDU LI-L-LAHI -L-LADZEE AH'YAANAA BA'ADA MAA AMAATANAA WA ILAIHI -N-NUSHUUR].

« Ope ni fun Olohun ti O ta wa ji leyin pipa ti O pa wa, odo Re si ni igbende gbogbo eda yoo je ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

٢ - « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ،

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ

إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ،

رَبِّ اغْفِرْ لِي ». رواه البخاري.

[LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WAHDHU LAA SHAREEKA LAH, LAHU -L- MULKU WA LAHU -L- HAMD, WA HUWA ALAA KULLI SHAIN IN QADEER, SUBHAANA -L-LAH, WA -L-HAMDU LI -L-LAH, WA LAA ILAAHA ILLA -L-LAH, WA -L-LAHU AKBAR, WA LAA HAWLA WA LAA QUWWATA ILLA BI -L-LAHI -L- ALIYYI -L-ADZEEM RABBI -G-FIRLEE].

« Kò si o ba kan ti o to lati fi ododo josin fun yatọ si Olohun nikan soso, ko si orogun fun Un, ti E ni gbogbo akoso ati gbogbo eyin i se, Oun si ni Alagbara lori gbogbo nnkan, mimọ ni fun Olohun, ope ni fun Olohun, kò si o ba kan ti o to lati fi ododo

josin fun yatọ si Ọlọhun, Ọlọhun l'O tobi ju, ati pe kò si ọgbọn kan, kò si si agbara kan leyin Ọlọhun Ọba-giga, Ọba-titobi, Ọlọhun dari jin mi ». Bukhari l'o gbe e jade.

۳- « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي، وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ ». رواه الترمذي.

[AL-HAMDU LI-L-LAHI -L-LADZEE AAFANEE FEE JASADEE, WA RADDA ALAIYYA RUUHEE, WA ADZINA LEE BI DZIKRIHI].

« Ọpẹ ni fun Ọlọhun Ọba ti O fun mi ni alaafia ni ara mi, ti O si da ẹmi mi pada si mi lara, ti O si yonda fun mi lati se iranti Rẹ ». At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

۴ - ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٦١﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦٢﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ ﴿١٦٣﴾ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَءَامَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٦٤﴾ رَبَّنَا وَءَايَاتِنَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا

فَمَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْإِيمَانَ ﴿١١٧﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا
 أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنَ بَعْضٍ فَأَلَّيْنِ
 هَاجِرُوا وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقَتِلُوا
 لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سِقَاتِيهِمْ وَلَا دَخَلْنَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١١٨﴾ لَا يَغُرُّكَ
 تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١١٩﴾ مَتَّعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ
 وَبِئْسَ الْمَهَادُ ﴿١٢٠﴾ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿١٢١﴾
 وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ
 إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ
 لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٢٢﴾ يَأْتِيهَا
 الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبَرُوا وَصَابَرُوا وَرَابَطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ ﴿١٢٣﴾ [سورة آل عمران : ١٩٠ - ٢٠٠] .

[INNA FEE KHALQI -S-SAMAAWATI WA -L-ARDHI WA
 KH'TILAAFI -L-LAILI WA -N-NAHAARI LA AAYAATIN LI ULI-L-
 AL-BAAB* ALLADZEENA YADZ'KURUUNA -L-LAHA
 QIYAAMAN WA QU'UDAN WA ALAA JUNUUBIHIM WA
 YATAFAKKARUUNA FEE KHALQI -S-SAMAAWATI WA -L-
 ARDHI RABBANAA MAA KHALAQ'TA HAADZAA BAATILAN

SUBHAANAKA FAQINAA ADZAABA -N-NAAR* RABBANAA
 INNAKA MAN TUDKHILI -N-NAARA FAQAD AKH'ZAITAHU
 WA MAA LI -D-DZALIMEENA MIN ANSAAR* RABBANAA
 INNANAA SAMI'INAA MUNAADIYAN YUNAADEE LI-L-IMAANI
 AN AAMINUU BI RABBIKUM FA AAMANNA RABBANAA
 FAGFIR LANAA DZUNUUBANAA WA KAFFIR AN-NAA
 SAYYIAATINAA WA TAWAFFANAA MA'A -L-ABRAAR*
 RABBANAA WA AATINAA MAA WA ADTANAA ALAA
 RUSULIKA WA LAA TUKH'ZINAA YAUMA -L-QIYAAMATI
 INNAKA LAA TUKH'LIFU -L-MEE'AAD* FASTAJAABA LAHUM
 RABBUHUM ANNEE LAA UDEE'U AMALA AAMILIN MINKUM
 MIN DZAKARIN AU UNTHAA BA'ADUKUM MIN BA'AD FA-L-
 LADZEENA HAAJARUU WA UKH'RIJUU MIN DIYAARIHIM
 WA UUDZUU FEE SABEELEE WA QAATALUU WA QUTILUU
 LA UKAFFIRANNA ANHUM SAYYI'AATIHIM WA
 LA'UDKHILANNAHUM JANNAATIN TAJ'REE MIN TAH'TIHAA
 -L-AN'HAARU THAWAABAN MIN INNDI -L-LAHI WA -L-LAHU
 INDAHU HUSNU THAWAAB* LAA YAGURRANNAKA
 TAQALLUBU -L-LADZEENA KAFARUU FEE -L-BILAAD
 MATAAUN QALEELUN THUMMA MA'AWA AHUM
 JAHANNAMA WA BI'ISA -L-MIHAAD* LAAKINI -L-LADZEENA
 -T-TAQQAW RABBAHUM LAHUM JANNAATUN TAJ'REE MIN
 TAH'TIHA -L-AN'HAARU KHAALIDEENA FIHAA NUZULAN
 MIN INDI -L-LAHI WA MAA INDA -L-LAHI KHAIRUN LI-L-
 ABRAAR* WA INNA MIN AH'LI -L-KITAABI LAMAN
 YU'UMINU BI -L-LAHI WA MAA UNZILA ILAIKUM WA MAA
 UNZILA ILAIHIM KHASHI'EEENA LI-L-LAAH LAA

YASH'TARUUNA BI AAYAATI -L-LAHI THAMANAN
 QALEELAN ULAAIKA LAHUM AJ'RUHUM INDA RABBIHIM
 INNA -L-LAHA SARI'EEU -L-HISAAB* YAA AYYUHA -L-
 LADZEENA AAMANUU -S-BIRUU WA SAABIRUU WA
 RAABITUU WA-T-TAQUU -L-LAHA LA'ALLAKUM
 TUFLIHUUN*J.

« Dajudaju awon ami n be fun awon onilaakaye ninu iseda awon sanma ati ile, ati titele [ara won] oru ati osan. Awon ti won maa n se iranti Olohun ni iduro ati ni ijoko ati ni ifegbelele won, ti won si maa n ronun nipa iseda awon sanma ati ile, Oluwa wa! Iwo ko seda awon nnkan wonyi lasan, mimo ni fun O, tori naa so wa nibi iya ina. Oluwa wa! o daju pe enikeni ti O ba mu wona O ti doju ti i, ki yoo si si oluranlowo kan fun awon alabosi. Oluwa wa! dajudaju awa gboto ti olupepe kan n pepe lo sibi igbagbo pe: E gba Oluwa yin gboto, tori naa awa gbagbo, Oluwa wa, dari esese wa jin wa, ki O si pa awon aburu wa re fun wa, ki O si pa wa pelu awon eni-rere. Oluwa wa! fun wa ni ohun ti O se ni adehun fun wa lati enu awon ojise Re, ma si se te wa ni ojo igbende, dajudaju Iwo ki I ye adehun. Oluwa won si je ipe won pe: Emi ki yoo fi ise ti enikan ninu yin se rare rara, yala okunrin tabi obinrin, ninu apa kan yin ni apa keji ti jade, tori naa awon ti won se hijira "isipopada kuro ni ilu eboto lo si ilu Islam", ti won si le won jade kuro ni awon ile won, ti won si fi

ara ni wọn ni oju-ona Mi, ti wọn si jagun, ti wọn si pa wọn, Mo bura pe dajudaju Emi yoo pa awọn aburu wọn re fun wọn, N o si mu wọn wo awọn ogba-idera ti awọn odo n san ni abe wọn, eleyii je ekan lati odo Olohun, Olohun ni O ni ekan ti o dara ju lodo. Ma se je ki lilo-bibo awọn alaigbagbo ninu awọn ilu gbogbo o tan o je rara. Igbadun igba die lasan ni eleyii i se, leyin naa ina Jahannama ni ibupadasi wọn, o si buru ni ite. Sugbon awọn ti wọn n paya Oluwa wọn, awọn ogba-idera ti awọn odo n san ni abe wọn n be fun wọn, inu re ni wọn yoo maa be laelae, eyi je ibusosi fun wọn lati odo Olohun, ohun ti n be lodo Olohun ni o loore ju fun awọn oluse-rere. Dajudaju o n be ninu awọn ti a fun ni tira -Yahudi ati Nasara- awọn ti wọn gba Olohun gbo, ati ohun ti a so kale fun yin, ati ohun ti a so kale fun wọn, ti wọn si maa n rera wọn silẹ fun Olohun, ti wọn ki i si ta awọn oro Olohun ni owo pooku, ekan awọn wonyi n be lodo Oluwa wọn, dajudaju Oba ti O yara ni isiro ni Olohun. Eyin olugbagbo-ododo e se suuru, e si maa fun awọn eniyan ni suuru, e si duro sinsin, ki e si paya Olohun, ki e le baa sori-ire».

Qur'aan -[3] Al-Imraan, 190-200.

ADUA TI ENIYAN O SE NIGBA TI O BA WO
EWU TAN

« الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ
مَنِّي وَلَا قُوَّةٍ ». [أخرجه أهل السنن إلا النسائي].

[ALHAMDU LI-L-LAHI -L-LADZEE KASAA'NEE HAADZAA
THAWB, WA RAZAQANEEHI MIN GAIRI HAWLIN MINNEE WA
LAA QUWWAH].

« Ọpẹ ni fun Ọlọhun ti O fun mi ni ẹwu yii wọ, ti O
si rọ mi lọrọ rẹ, lai jẹ pe ogbon kan tabi agbara kan
lati ọdọ mi l'ọ jẹ ki o ri bẹẹ ». Awon oni-tira Sunna l'ọ gbe e
jade yato si An-Nasaa'i.

ADUA TI ENIYAN O SE NIGBA TI O BA WO
ASO TUNTUN

« اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا
صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ ». [رواه أبو داود
والترمذي].

[ALLAHUMMA LAKA -L-HAMDU ANTA KASAWTANEEHI
AS'ALUKA MIN KHAIRIHI WA KHAIRI MAA SUNI'A LAH, WA
AUUDZU BIKA MI SHARRIHI WA SHARRI MAA SUNI'A LAH].

« Ọpẹ ni fun Iwọ Ọlọhun, Iwọ l'O fun mi ni asọ yii
wọ, mo n tọrọ oore rẹ lọdọ Rẹ ati oore ohun ti a se e
fun, mo si n fi Ọ wa isadi nibi aburu rẹ ati aburu
ohun ti a se e fun ». Abu-Daa'uud ati At-Tirmidziyyu l'ọ gbe e jade.

ADUA TI A O SE FUN ENI TI O WO ASO TUNTUN.

۱- « تُبْلَى وَيُخْلِفُ اللَّهُ تَعَالَى ». [أخرجه أبو داود].

[TUBLAA WA YUKHLIFU -L-LAHU TA'AALAA].

« -Emi rẹ- yoo -lo o- gbo, Ọlọhun Ọba t'O ga yoo si fi ọtun omiran jaarọ rẹ fun Ọ ». Abu-Daa'uud l'o gbe e jade.

۲- « إِبْسٌ جَدِيدٌ، وَعِشٌّ حَمِيدٌ، وَمُتٌ شَهِيدٌ ». [رواه ابن ماجة].

[IL'BIS JADEEDAN, WA ISH HAMEEDAN, WA MUT SHAHEEDAN].

« Tuntun kò ni i tan ni apa ẹwu rẹ, isẹmi ẹyin yoo jẹ tiẹ, o si ku iku shahidi -ẹni ti o ku si oju ogun lati gbe ẹsin Ọlọhun ga- ». Ibn Maajah l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA N BO EWU RE

« بِسْمِ اللَّهِ ». [رواه الترمذي].

[BISMI -L-LAH].

« -Mo n bẹwu- ni oruko Ọlọhun ». At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN O SE NIGBA TI O BA FE WO ILE-IGBONSE TABI AYE YOWU TI O TI FE SE IGBONSE

« بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ ». [متفق عليه].

[BISMI -L-LAH, ALLAHUMMA INNEE AUUDZU BIKA MINA -L-KHUBUTHI WA -L-KHABAA'ITH].

« -Mo n wọle- ni orukọ Ọlọhun, Mo sadi Iwọ Ọlọhun kuro ni ọdọ awọn ọkunrin ati awọn obinrin ESU ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN O SE NIGBA TI O BA N
JADE KURO NI ILE-IGBONSE TABI
IBIYOWU TI O TI SE IGBONSE

« غُفْرَانِكَ ». [أعرجه أصحاب السنن إلا النسائي].

[GUF'RAANAK].

« Ọlọhun dari jin mi ». Awọn oni-tira Sunna l'o gbe e jade yatọ si An-Nasaa'i.

ADUA IBERE ALUWALA

« بِسْمِ اللَّهِ ». [رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه].

[BISMI -L-LAH].

« -Mo bẹrẹ- ni orukọ Ọlọhun ». Ahmad, ati Abu-Daa'uud, ati Ibn Maajah l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN O SE NIGBA TI O BA PARI
ALUWALA

١- « أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ... ». [رواه مسلم].

[ASH'HADU AN LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WAH'DAHU LAA SHAREEKA LAH, WA ASH'HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASUULUH ...].

« Mo jẹri pe kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọlọhun nikan soso, kò si orogun kan fun Un, mo si tun jẹri pe Anabi Muhammad ẹru Ọlọhun ni i se, ojise Rẹ si ni pẹlu ... ». Muslim l'o gbe e jade.

۲- « السَّلَامُ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ ».

[رواه الترمذي].

[ALLAHUMMA -J-AL'NEE MINA -T-TAWAABEEN, WA -J-AL'NEE MINA -L-MUTATAAHIREEN].

« Ọlọhun se mi ni ọkan ninu awọn oluronupiwada, si se mi ni ọkan ninu awọn oluse-imọra ». At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

۳- « سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ،

أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ». [رواه النسائي في عمل اليوم والليلة].

[SUBHAANAKA -L-LAHUMMA WA BIHAMDIK, ASH'HADU AN LAA ILAAHA ILLA ANT, ASTAGFIRUKA WA ATUUBU ILAIK].

« Mimọ ni fun Iwọ Ọlọhun, mo fi ẹyin fun Ọ, mo si jẹri pe kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọ, mo n tọrọ aforijin lọdọ Rẹ, mo si n ronupiwada lọ si ọdọ Rẹ ». An-Nasaa'i l'o gbe e jade ninu tira Amalu -l-yawmi wa -l-lailah.

ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA FE JADE KURO NI ILE

۱- « بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا

بِاللَّهِ ». [رواه أبو داود والترمذي].

[BISMI -L-LAH, TAWAKKALTU ALAA -L-LAH, WA LAH HAWLA WA LAH QUWWATA ILLA BI -L-LAH].

« -Mo n jade- ni oruko Qlqhun, mo ba Qlqhun duro, ko si oqbon kan, beq ni ko si agbara kan leyin Qlqhun ». Abu-Daa'uud ati At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

۲- « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَوْ أُضَلَ، أَوْ أَزِلَّ، أَوْ أُزَلَ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ ». [رواه أصحاب السنن].

[ALLAHUMMA INNEE AUUDZU BIKA AN ADHILLA, AU UDHAL, AU AZILLA AU UZAL, AU ADZLIMA AU UDZLAM, AU AJHALA AU YUJHAL ALLAIYYA].

« Mo sadi Iwo Qlqhun kuro nibi ki n sina, tabi ki a si mi lona, ati nibi ki n deqe, tabi ki a mu mi deqe; ati nibi ki n se abosi fun enikan tabi ki a se abosi fun mi, ati nibi ki n si iwa hu, tabi ki a o mu mi si iwa hu». Awon oni-tira Sunna l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA FE WO ILE RE

« بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا؛ ثُمَّ لَيْسَ عَلَيَّ أَهْلُهُ ». [رواه أبو داود].

[BISMI-L-LAHI WALAJNAA, WA BISMI-L-LAHI KHARAJNAA WA ALAA RABBINAA TAWAKKALNAA].

« "A wo le ni oruko Qlqhun, a si jade ni oruko Qlqhun, Oluwa wa ni a gbekere". Leyin naa ki o salama si awon ebi re ».

ADUA TI ENIYAN O SE NIGBA TI BAN LO SI
MASALASI

« اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا، وَعَظِّمْ لِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا، وَاجْعَلْنِي نُورًا، اللَّهُمَّ أَعْظِنِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي عَصَبِي نُورًا، وَفِي لَحْمِي نُورًا، وَفِي دَمِي نُورًا، وَفِي شَعْرِي نُورًا، وَفِي بَشَرِي نُورًا. » [متفق عليه].

[ALLAHUMMA -J-AL FEE QALBEE NUURAN, WA FEE LISAANEE NUURAN, WA FEE SAM'EE NUURAN, WA FEE BASAREE NUURAN, WA MIN FAWQEE NUURAN, WA MIN TAHTEE NUURAN, WA AN YAMEENEE NUURAN, WA AN SHIMAALEE NUURAN, WA MIN AMAAMEE NUURAN, WA MIN KHALFEE NUURAN, WA -J-AL FEE NAFSEE NUURAN, WA A'ADZIM LEE NUURAN, WA ADZZIM LEE NUURAN, WA -J-AL LEE NUURAN, WA -J-ALNEE NUURAN, ALLAHUMMA A'ATINEE NUURAN, WA -J-AL FEE ASABEE NUURAN, WA FEE LAHMEE NUURAN, WA FEE DAMEE NUURAN, WA FEE SHA'AREE NUURAN, WA FEE BASHAREE NUURAN].

« Ọlọhun fi imọlẹ si inu ọkan mi, fi imọlẹ si ahọn mi, fi imọlẹ si inu eti mi, fi imọlẹ si inu oju mi, fi

imọlẹ si oke mi, fi imọlẹ si isalẹ mi, fi imọlẹ si apa
 ọtun mi, fi imọlẹ si apa alaafia mi, fi imọlẹ si iwaju
 mi, fi imọlẹ si ẹyin mi, fi imọlẹ si inu ẹmi mi, jẹ ki
 imọlẹ mi o tobi, se imọlẹ mi ni titobi fun mi, jẹ ki n
 ni imọlẹ, se mi ni imọlẹ, Ọlọhun fun mi ni imọlẹ, fi
 imọlẹ si inu isan mi, fi imọlẹ si inu ẹran mi, fi imọlẹ
 si inu ẹjẹ mi, fi imọlẹ si inu irun mi, fi imọlẹ si inu
 awọ mi ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

« اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَبْرِي، وَنُورًا فِي عِظَامِي، وَزِدْنِي
 نُورًا، وَزِدْنِي نُورًا، وَزِدْنِي نُورًا ». « وَهَبْ لِي نُورًا عَلَى
 نُورٍ ».

[ALLAHUMMA -J-AL LEE NUURAN FEE QABREE, WA
 NUURAN FEE IDZAAMEE, WA ZIDNEE NUURAN, WA ZIDNEE
 NUURAN, WA ZIDNEE NUURAN, WA HABLEE NUURAN ALAA
 NUUR].

« Ọlọhun ba mi fi imọlẹ si inu saare mi, fi imọlẹ si
 inu awọn eegun mi, se alekun imọlẹ fun mi, se
 alekun imọlẹ fun mi, se alekun imọlẹ fun mi, bun mi
 ni imọlẹ kun imọlẹ ».

(۱) رواه البخاري في الأدب المفرد.

(۲) ذكره ابن حجر في الفتح، وعزاه إلى ابن أبي عاصم في كتاب الدعاء.

ADUA ATIWO MASALASI

« أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ،
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ، وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ
اللَّهِ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. »

[AUUDZU BI-L-LAHI -L-ADZEEM, WA BI WAJHIHI -L-KAREEM,
WA SULTAANIHI -L-QADEEM, MINA -SH-SHAITAANI -R-
RAJEEM, BISMI -L-LAHI WA -S-SALAATU WA S-SALAAMU
ALAA RASUULI -L-LAH, ALLAHUMMA -F-TAH LEE ABWAABA
RAHMATIK].

« Mo n fi Qlqhun Qba -titobi ati oju Re alaponle ati
ijoba Re laelae wa isadi kuro lodq esu eni-egbe, mo
n wole ni oruko Qlqhun, ike ati qla Qlqhun k'o maa
ba Ojise Qlqhun, Qlqhun si awon ilekun aanu Re fun
mi ».

ADUA ATIJADE NI MASALASI

« بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي
أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، اللَّهُمَّ أَغْصِنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. »

[BISMI -L-LAHI WA -S-SALAATU WA -S-SALAAMU ALAA
RASUULI -L-LAH, ALLAHUMMA INNEE AS'ALUKA MIN
FADHLIK, ALLAHUMMA A'ASIMNEE MINA -SH-SHAITAANI -
R-RAJEEM].

« Mo n jade ni orukọ Ọlọhun, ikẹ ati ọla Ọlọhun k'ọ maa ba Ojise Ọlọhun, Iwo Ọlọhun fun mi ninu ọla Re, Ọlọhun sọ mi kuro loḍo esu ẹni-egbe ».

AWON OHUN TI ENIYAN YOO MAA WI
NIGBA TI WON BA N PERUN

1- Eniyan yoo maa wi iru ohun ti oluperun n wi yatọ si wi pe nigba ti o ba sọ pe: [HAYYA ALA -S-SALAAH], ati [HAYYA ALA -L-FALAAH], ohun ti eniyan yoo wi leyin ekini keji won ni:

« لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ».

[LAA HAWLA WA LAA QUWWATA ILLA BI -L-LAH].

2- Leyin ti oluperun ba wi awon gbolohun ijeri mejeeji [ti i se: **ASH'HADU AN LAA ILAAHA ILLA -L-LAH**], ati [**ASH'HADU ANNA MUHAMMADAN RASUULU -L-LAH**] tan, ti eniyan naa si ti wi i tele e leyin gege bi o ti wi i, eniyan o sọ pe:

« رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ». [رداه
مسلم].

[RADHEETU BI-L-LAHI RABBAN, WA BI MUHAMMADIN RASUULAN, WA BI -L-ISLAMI DEENAN].

« Mo gba Ọlọhun ni Oluwa, mo si gba Muhammad ni ojise, mo si gba Islam lesin ». Muslim l'o gbe e jade.

3- Leyin ti won ba perun tan eniyan o se asalatu fun Anabi wa "ikẹ ati ọla Ọlọhun k'ọ maa ba a". Muslim l'o gbe e jade.

4- Lẹyin naa ni eniyan o wa wi awon gbolohun ti n bo wonyi:

« اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا
الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَأَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ »
"إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ"⁽¹⁾ .

[ALLAHUMMA RABBA HAADZIHI -D-DA'AWATI -T-
TAAMMAH, WA -S-SALAATI -L-QAA'IMAH, AATI
MUHAMMADAN AL-WASEELATA WA L-FADHEELAH,
WAB'ATH'HU MAQAAMAN MAHMUUDANI -L-LADZEE WA
ADTAH, INNAKA LAA TUKHLIFU -L-MEE'AAD].

« Iwo Qlohun Qba ti O ni ipe pipe yii, ati irun ti a gbe duro yii, fun Anabi Muhammad ni Al-Wasila [aye oia nla kan ninu Al-Janna -ogba idera- ti Qlohun pa lese kale fun okan ninu awon eru Re], ati ajulo, ki O si gbe e dide ni aye eyin ti O se ladehun fun un. Dajudaju Iwo ki I ye adehun rara ».

5- Lẹyin eleyii eniyan o maa toro gbogbo ohun ti n fe ni oore laarin asiko ti n be lẹyin irun pipe si igba ti

(1) رواه البخاري.

(2) رواه البيهقي في السنن الكبرى، وحسن إسناده العلامة عبد العزيز بن باز في

التحفة.

won yoo gbe irun duro, tori pe Ọlọhun ki I kọ adua si ẹru Rẹ lenu ni asiko naa. Ahmad, ati Abu-Da'uud, ati At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

ADUA ISIRUN

۱- « اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ تَقْنِي مِنْ خَطَايَايَ، كَمَا يُتَقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ، بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ ». [متفق عليه].

[ALLAHUMMA BAA'ID BAINEE WA BAINA KHATAAYAAYA KAMAA BAA'ADTA BAINA -L-MASHRIQI WA -L-MAGRIB, ALLAHUMMA NAQQINEE MIN KHATAAYAAYA KAMAA YUNAQQA -TH-THAWBU -L-LABYADU MINA -D-DANAS, WA'G'SILNEE MIN KHATAAYAAYA BI -T-THALJI WA -L-MAA'I WA -L-BARAD].

« Ọlọhun gbe mi jinna si awon asise mi gege bi O ti se gbe ibula oorun jinna si ibuwọ re, Ọlọhun fọ mi mọ kuro ninu awon asise mi gege bi a ti maa n fọ asọ funfun mọ kuro ninu gbogbo idoti, Ọlọhun wẹ mi kuro ninu awon asise mi pelu omi tutu ati omi ati omi ojo ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

۲- « سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ». [أخرجه أصحاب السنن الأربعة].

[SUBHAANAKA -L-LAHUMMA WA BI HAMDIK, WA
TABAARAKA -S-MUK, WA TA'AALAA JADDUK, WA LA
ILAAHA GAIIRUK].

« Mimọ ni fun Iwo Ọlọhun, ẹyin si ni fun Ọ, ibukun
ni fun oruko Re, giga ni fun titobi Re, ati pe ko si
ọba kan ti o to lati fi ododo josin fun yatọ si Ọ ». Awon
oni-tira Sunna merẹerin l'o gbe e jade.

۳- « وَجْهَتْ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ خَنِيفًا وَمَا
أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَتُسْكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ
الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا
عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي فَاعْفُرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا
إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا
يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لَا يَصْرِفُ
عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ،
وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ
وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ». رواه مسلم.

[WAJJAHTU WAJHIYA LI -L-LADZEE FATARA -S-
SAMAAWAATI WA -L-ARDHA HANEEFAN WA MAA ANA
MINA -L-MUSHRIQEEN, INNA SALAATEE WA NUSUKEE, WA

MAHYAAYA, WA MAMAATEE LI -L-LAHI RABBI -L-AALAMEEN, LAA SHAREEKA LAH, WA BI DZAALIKA UMIRTU WA ANA MINA -L-MUSLIMEEN. ALLAHUMMA ANTA -L-MALIKU LAA ILAAHA ILLA ANT. ANTA RABBE WA ANA ABDUK, DZALAMTU NAFSEE WA'ATARAFTU BI DZAMBEE FA'G'FIR LEE DZUNUUBEE JAMEE'AN INNAHU LAA YA'G'FIRU .D-DZUNUUBA ILLA ANT. WA H'DINEE LI AHSANI -L-AKHLAAQ LAA YAHDEE LI AHSANIHAA ILLA ANT, WA -S-RIF ANNEE SAYYI'AHAA, LAA YASRIF ANNEE SAYYI'AHAA ILLA ANT, LABBAIKA WA SA'ADAİK, WA -L-KHAIRU KULUHU BI YADAİK, WA -SH-SHARRU LAISA ILAİK, ANA BIKA WA ILAİK, TABAARAKTA WA TA'AALAIT, AS'TAG'FIRUKA WA ATUUBU ILAİK].

« Mo d'uju mi kọ Ọlọhun ti O sẹda awọn sanma ati ilẹ l'ẹni ti o fi oju-ona ti kò dọgba silẹ ati pe emi kò jẹ ọkan ninu awọn ọṣẹbọ rara, dajudaju irun mi ati iparan-josin mi, isẹmi ati iku mi ti Ọlọhun Oluwa gbogbo ẹda ni i se, Ọba ti kò ni orogun, eyi ni ohun ti a fi pa mi lase, beẹ ni ọkan ninu awọn Musulumi [olugbafa fun Ọlọhun] ni emi i se. Iwo Ọlọhun ni Ọba, kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo josin fun yatọ si Ọ, Iwo ni Oluwa mi, ẹru Rẹ ni mi, mo se abosi fun ori ara mi, mo si jẹwo ẹṣẹ mi, se aforijin awọn ẹṣẹ mi fun mi lapapọ, tori pe ẹnikan ki i dari ẹṣẹ ẹni jin ni yatọ si Ọ, fi ọna mọ mi lọ sibi eyi ti o dara ju ninu awọn iwa, eyi ti ẹnikan kò le e fi ni mọna lọ sibi eyi ti o dara ju ninu rẹ yatọ si Ọ, sẹri mi kuro nidi eyi ti

kò dara ninu awon iwa, eyi ti enikan kò le e seri eni kuro nidi eyi ti kò dara ninu re yatò si O, mo n be lori titẹle ilana Re ni bibẹ leyin bibẹ, mo si n tẹle esin Re ni titẹle leyin titẹle, gbogbo oore n be lowo Re mejeeji, aburu ki i se tiE, Iwo ni O fi mi se konge, ati pe odò Re naa ni n o pada si, ibukun ati giga ni fun O, mo n toro aforijin lodò Re, mo si n ronupiwada lo si odò Re ».Muslim l'o gbe e jade.

٤- « اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. » [رواه مسلم].

[ALLAHUMMA RABBA JIBRAA'I'EEL, WA MIKAA'I'EEL, WA ISRAAFEEL, FAATIRA -S-SAMAAWATI WA -L-ARDH, AALIMA -L-GAIBI WA -SH-SHAHAADAH, ANTA TAHKUMU BAINA IBAADIKA FEEMAA KANUU FEEHI YAKHTALIFUUN. IHDINEE LIMAA 'KHTULIFA FEEHI MINA -L-HAQQI BI IDZINIK, INNAKA TAHDEE MAN TASHAA'U ILAA SIRAA TIN MUSTAQEEM].

« Olohun Oba Malaika Jibreel ati Mikaa'i'eel ati Israafeel, Olupileda awon sanma ati ile, Olumo ikoko ati gbangba, Iwo ni O se idajo laarin awon eru Re nipa ohun ti won n se iyapa-enu le lori. Fi ona mo

mi pɛlu iyonda Rɛ lɔ sidi ohun ti o jɛ ododo ninu
 ohun ti wɔn n se iyapa-ɛnu le lori, dajudaju Iwo ni O
 maa N fi ɔna mo ɛni ti O ba fɛ lɔ si ɔna ti o dogba ».
 Muslim l'o gbe e jade.

« - الله أَكْبَرُ كَثِيرًا، اللهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا، اللهُ أَكْبَرُ كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ
 لِلَّهِ كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ
 بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً
 وَأَصِيلًا، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ: مِنْ نَفْسِهِ، وَنَفْسِهِ، وَهَمَزِهِ ».

[رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة].

[ALLAHU AKBARU KABEERAN, ALLAHU AKBARU
 KABEERAN, ALLAHU AKBARU KABEERAN, WA -L-HAMDU LI
 -L-LAHI KATHEERAN, WA -L-HAMDU LI -L-LAHI KATHEERAN,
 WA -L-HAMDU LI -L-LAHI KATHEERAN, WA SUBHAANA -L-
 LAHI BUKRATAN WA ASEELAN, WA SUBHAANA -L-LAHI
 BUKRATAN WA ASEELAN, WA SUBHAANA -L-LAHI
 BUKRATAN WA ASEELAN, AUUDZU BI -L-LAHI MINA -SH-
 SHATAAN, MIN NAFKHIHI, WA NAFTHIHI, WA HAMZIHI].

« Olohun l'O tobi ju ni titobi, Olohun l'O tobi ju ni
 titobi, Olohun l'O tobi ju ni titobi, ope ni fun Olohun
 lopolopo, ope ni fun Olohun lopolopo, ope ni fun
 Olohun lopolopo, mimo ni fun Olohun ni owuro
 kutukutu ati ni irole, mimo ni fun Olohun ni owuro
 kutukutu ati ni irole, mimo ni fun Olohun ni owuro
 kutukutu ati ni irole, mo n fi Olohun wa isadi kuro ni

ḡḡḡ esu, ati igberaga rē, ati orin rē, ati isiwīn rē » .
Ahmed, ati Abu-Dea'uud, ati Ibn Maajah l'o gbe e jade.

٦- « اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ،
وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ،
"وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ"،
"وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ"،
"وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ"، "وَلَكَ الْحَمْدُ"
"أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ،
وَالْحِجَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ،
وَالسَّاعَةُ حَقٌّ"، "اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَبِكَ
آمَنْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاعْفِرْ
لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ"، "أَنْتَ
الْمُقَدَّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخَّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ"، "أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ". [متفق عليه].

[ALLAHUMMA LAKA -L-HAMDU ANTA NUURU -S-
SAMAAWATI WA -L-ARDHI WA MAN FEEHINNA, WA LAKA
-L-HAMDU ANTA QAYYIMU -S-SAMAAWATI WA -L-ARDHI
WA MAN FEEHINNA, WA LAKA -L-HAMDU ANTA RABBU -S-
SAMAAWATI WA -L-ARDHI WA MAN FEEHINNA, WA LAKA -

L-HAMDU LAKA MULKU -S-SAMAAWATI WA -L-ARDHI WA
 MAN FEEHINNA, WA LAKA -L-HAMDU ANTA MALIKU -S-
 SAMAAWATI WA -L-ARDH, WA LAKA -L-HAMDU ANTA -L-
 HAQQ, WA WA'ADUKA -L-HAQQ, WA QAWLUKA -L-HAQQ,
 WA LIQAA'UKA -L-HAQQ, WA -L-JANNATU HAQQ, WA -N-
 NAARU HAQQ, WA -N-NABIYYUUNA HAQQ, WA
 MUHAMMADUN HAQQ, WA -S-SAA'ATU HAQQ,
 ALLAHUMMA LAKA ASLAMTU, WA ALAIKA TAWAKKATU,
 WA BIKA AAMANTU, WA ILAIKA ANABTU, WA BIKA
 KHAASAMTU, WA ILAIKA HAAKAMTU, FA-G-FIR LEE MAA
 QADDAMTU, WA MAA AKH-KHARTU, WA MAA ASRARTU,
 WA MAA A'ALANTU, ANTA -L-MUQADDIM, WA ANTA -L-
 MU'AKHIR, LAA ILAAHA ILLA ANT, ANTA ILAAHEE LAA
 ILAAHA ILLA ANT].

« Ti Iwọ Ọlọhun nikan ni gbogbo ọpẹ i se, Iwọ ni
 Imọlẹ awọn sanma ati ilẹ ati awọn ti wọn n bẹ ninu
 wọn, Iwọ l'O ni gbogbo ọpẹ, Iwọ ni opo-mulero fun
 awọn sanma ati ilẹ ati awọn ti wọn n bẹ ninu wọn,
 Iwọ nikan l'O ni gbogbo ọpẹ, Iwọ ni Olowo gbogbo
 ohun ti n bẹ ni awọn sanma ati ilẹ ati awọn ti n bẹ
 ninu wọn, tiE nikan ni gbogbo ọpẹ i se Iwọ ni Ọba
 awọn sanma ati ilẹ, Iwọ nikan l'O ni gbogbo ọpẹ,
 Iwọ ni Ododo, adehun Rẹ ni ododo, ọrọ Rẹ ni
 ododo, pipade Rẹ ni ododo, ati pe Al-Janna -ogba
 idẹra- ododo ni, ina naa ododo ni, ododo si ni awọn
 anabi Rẹ i se, bẹẹ ni ododo ni Anabi Muhammad
 “ike ọti ọla Ọlọhun k'o maa ba a”, Iwọ Ọlọhun ni

mo gbafa fun, Iwo si ni mo gbẹkele, Iwo ni mo gbagbo lododo, odo Re nikan si ni mo seri-pada si, odo Re ni mo ti n wa atileyin lati ba awon ti won tako tiE ja, odo Re nikan si ni mo ti n reti idajo, wa dari awon esese mi ti mo ti se siwaju jin mi, ati eyi ti mo se gbeyin, ati eyi ti mo se ni kolofin, ati eyi ti mo se ni gbangba, Iwo ni Oba ti I fa nnkan si iwaju ti I si fa a seyin, ko si oba kan ti o to lati fi ododo josin fun yatọ si O, Iwo ni Olohun mi ti mo n sin, ko si oba kan ti o to lati josin fun lododo yatọ si O ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO SE NI RUKU

۱ - « سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ » ثلاث مرات. [رواه احمد وأصحاب السنن].

[SUBHAANA RABBIYA -L-ADZEEM]; leṣemeta.

« Mimọ ni fun Oluwa mi Oba-titobi ». Ahmad ati awon onitira Sunna l'o gbe e jade.

۲ - « سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ». [متفق عليه].

[SUBHAANAKA -L-LAHUMMA RABBANAA WA BI HAMDIKA -L-LAHUMMA -G-FIR LEE].

« Mimọ ni fun Iwo Olohun Oluwa wa, ope ni fun O, Olohun dari jin mi ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

۳ - « سُبُوْحٌ، قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ ». [رواه مسلم].

[SUBBUUHUN, QUDDUUSUN, RABBU -L-MALAAIKATI WA -R-RUUH].

« Amọ-kuro-ninu-gbogbo-aidaa, Oni-mimọ
Onibukun, Oluwa awọn Malaika ati Jibreel ». Muslim
l'o gbe e jade.

٤ - « اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسَلْتُ، خَشَعْتُ
لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعَظْمِي، وَعَصَبِي، وَمَا اسْتَقَلُّ
بِهِ قَدَمِي ». [رواه مسلم].

[ALLAHUMMA LAKA RAKA'A'TU, WA BIKA AAMANTU, WA
LAKA ASLAMTU, KHASHI'A LAKA SAM'EE, WA BASAREE,
WA MUKKHEE, WA ADZMEE, WA ASABEE, WA MAA -S-
TAQALLA BIHI QADAMEE].

« Iwọ Qlọhun ni mo tẹ -ruku- fun, Iwọ si ni mo
gbagbọ lododo, Iwọ ni mo gbafa fun, eti mi, oju mi,
ọpọlọ mi, eegun ara mi, isan mi, ati ohun ti ẹsẹ mi
gbe duro gbogbo wọn ni wọn tẹriba fun Iwọ
Qlọhun». Muslim l'o gbe e jade.

٥ - « سُُبْحَانَ ذِي الْحَبْرُوتِ، وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكَبْرِيَاءِ،
وَالْعَظْمَةِ ». [رواه احمد، واهو داود، والنسائي].

[SUBHAANA DZEE -L-JABARUUT, WA -L-MALAKUUT, WA -L-
KIBRIYAA, WA -L-ADZAMAH].

« Mimọ ni fun Qba Olubori, Oni-ijọba, ati
motomoto, ati titobi ». Ahmad ati Abu-Daa'uud ati Nasaa'i l'o gbe
e jade.

ADUA TI ENIYAN O SE NIGBA TI O BA GBE
ORI SOKE LATI RUKU

١ - « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ». [رواه البخاري].

[SAMIA -L-LAHU LIMAN HAMIDAH].

« Olohun N gbọ ope eni ti n dupe fun Un ». Bukhari l'o gbe e jade.

٢ - « رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ». [رواه البخاري].

[RABBANAA WA LAKA -L-HAMD, HAMDAN KHATHEERAN TAYYIBAN MUBAARAKAN FEEH].

« Oluwa wa, tiE ni gbogbo ope i se, ni ope ti o dara ti O se ibukun fun ». Bukhari l'o gbe e jade.

٣ - « مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شَفَعْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. أَهْلَ الشَّاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَنَا عَبْدٌ: اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ». [رواه مسلم].

[MIL'A -S-SAMAAWATI WA MIL'A -L-ARDHI WA MAA BAINAHUMAA, WA MIL'A MAA SHI'ITA MIN SHAI'IN BA'AD, AHLA THANAA'I WA -L-MAJD. AHAQQU MAA QAALA -L-ABD, WA KULLUNAA LAKA ABD: LAA MAANIA LIMAA A'ATAITA, WA LAA MU'UTIYA LIMAA MANA'ATA, WA LAA YANFAU DZA -L-JADDI MINKA -L-JADD].

« Ni ọpẹ ti o kun gbogbo awọn sanma ati ile ati ohun ti n bẹ laarin mejeeji, ti o si tun kun ohun miiran ti O ba fẹ lẹyin awọn wọnyi, Iwọ ni Ọba ẹyin ati ogo; eyi ti o tọ ju ninu ohun ti ẹru Ọlọhun wi -bẹẹ ni ẹru Rẹ ni gbogbo wa jẹ- ni pe: Kò si ẹnikan ti o le di ọna ohun ti O ba pe ni tẹni, kò si si ẹnikan ti o le fun ni ni ohun ti O kọ lati fun ni, ati pe ọrọ ọlọrọ kan kò le e se e ni anfaani kankan rara lọdọ Rẹ ». Muslim l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA FI ORI KANLE

۱ - « سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى », ثلاث مرات. [رواه احمد واصحاب السنن].

[SUBHAANA RABBIYA -L-A'ALAA]; lẹmẹta.

« Mimọ ni fun Oluwa mi Ọba ti O ga ju ». Ahmad ati awọn oni-tira Sunna l'o gbe e jade.

۲ - « سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ». [متفق عليه].

[SUBHAANAKA -L-LAHUMMA RABBANAA WA BI HAMDIKA -L-LAHUMMA -G-FIR'LEE].

« Mimọ ni fun Iwọ Ọlọhun Oluwa wa, ọpẹ ni fun Ọ, Iwọ Ọlọhun dari jin mi ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

۳ - « سُُبُوْحٌ، قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ ». [رواه مسلم].

[SUBBUUHUN, QUDDUUSUN, RABBU -L-MALAAIKATI WA -R-RUUH].

« Amọ-kuro-ninu-gbogbo-aidaa, Oni-mimọ
Onibukun, Oluwa awọn Malaika ati Jibreel ». Muslim
l'o gbe e jade.

٤ - « اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ
وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ
أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ». رواه مسلم.

[ALLAHUMMA LAKA SAJADTU, WA BIKA AAMANTU, WA
LAKA ASLAMTU, SAJADA WAJHEE LI -L-LADZEE
KHALAQAHU, WA SAWWARAHU, WA SHAQQA SAM'A'HU,
WA BASARAHU, TABARAKA -L-LAHU AH'SANA -L-
KHAALIQEEN].

« Iwọ Ọlọhun ni mo fi ori kanlẹ fun, Iwọ ni mo
gbagbo lododo, Iwọ ni mo gbafa fun, oju mi tẹriba
fun Ọlọhun ti O da a, ti O si ya aworan rẹ, ti O si la
eti ati oju iriran rẹ si ara rẹ, ibukun ni fun Ọlọhun
Ọba ti O da awọn ẹda Rẹ ni ọna ti o dara julọ ».
Muslim l'o gbe e jade.

٥ - « سُُبْحَانَ ذِي الْجَبْرُوتِ، وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ،
وَالْعِظَمَةِ ». [رواه أحمد، وأبو داود والنسائي].

[SUBHAANA DZEE -L-JABARUUT, WA -L-MALAKUUT, WA -L-
KIBRIYAA, WA -L-ADZAMAH].

« Mimọ ni fun Ọba Olubori, Oni-ijọba, ati
motomoto, ati titobi ». Ahmad ati Abu-Daa'uud ati Nasaa'i l'o gbe
e jade.

٦- « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّةً، وَجِلَّةً، وَأَوَّلَهُ، وَآخِرَهُ،
وَعَلَائِيَّتَهُ، وَسِرَّهُ ». [رواه مسلم].

[ALLAHUMMA -G-FIR'LEE DZAMBEE KULLAHU, DIQQAHU
WA JILLAHU, WA AWWALAHU WA AAKHIRAHU, WA
ALAANIYATAHU, WA SIRRAHU].

« Ọlọhun dari gbogbo awọn ẹsẹ mi jin mi, eyi ti o wẹ
ninu wọn, ati eyi ti o tobi, akọkọ wọn, ati eyi ti o
gbeyin, eyi ti mo da ni gbangba, ati eyi ti mo sẹ ni
ikọkọ ». Muslim l'o gbe e jade.

٧- « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ
عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا
أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ ». [رواه مسلم].

[ALLAHUMMA INNEE AUUDZU BI RIDHAACA MIN
SAKHATIK, WA BI MU'AAFAATIKA MIN UQUUBATIK, WA
AUUDZU BIKA MINKA LAA UH'SEE THANAA'AN ALAIKA
ANTA KAMA ATH'NAITA ALAA NAFSIK].

« Iwọ Ọlọhun mo n fi iyọnu Rẹ wa isadi kuro nibi
ibinu Rẹ, mo si n fi amojukuro Rẹ wa isadi kuro nibi
iya Rẹ, mo si n fi Ọ wa isadi ni ọdọ ara Rẹ, kò si bi
mo ti se le yin Ọ ti o le da gẹgẹ bi O ti se yin ara
Rẹ». Muslim l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN O SE NIGBA TI O BA JOKOO LAARIN IFORIKANLE MEJEEJI

۱- « رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي ». [رواه أبو داود، وابن ماجه].

[RABBI -G-FIR'LEE, RABBI-G-FIR'LEE].

« Oluwa mi fori jin mi, Oluwa mi fori jin mi ». Abu-Daa'uud ati Ibn Maajah l'o gbe e jade.

۲- « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَاجْبُرْنِي، وَعَافِنِي،

وَارْزُقْنِي، وَارْفَعْنِي ». [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه].

[ALLAHUMMA -G-FIR'LEE, WA -R-HAMNEE, WA -J-BURNEE, WA -H-DINEE, WA AAFINEE, WA -R-ZUQNEE, WA -R-FA'A'NEE].

« Qlòhun fori jin mi, kẹ mi, fi ọna mọ mi, mu osi mi kuro, fun mi ni alaafia, rọ mi lọrọ, se agbega fun mi ». Abu-Daa'uud ati At-Tirmidziyyu ati Ibn Maajah l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA T'O BA FI ORI KANLE NI OKAN NINU AWON AYE TI A TI MAA N FI ORI KANLE NIGBA TI A B A N KE AL-OUR'AAN ALAPONLE

۱- « سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ

وَقُوَّتِهِ، ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾ ». [رواه أحمد، والترمذي،

والحاكم].

[SAJADA WAJHEE LI -L-LADZEE KHALAQAHU, WA SHAQQA SAM'A'HU WA BASARAHU BI HAWLIHI WA QUWWATIHI, "FATABAARAKA -L-LAHU AH'SANA -L-KHAALIQEEN"].

« Oju mi t̄eriba fun Ẹni ti O da a, ti O si la eti ati oju iriran r̄e si ara r̄e p̄elu oḡb̄on ati agbara R̄e, "Ibukun ni fun Ọl̄ohun Ọba ti O da aw̄on ẹda R̄e ni ọna ti o dara jul̄o"». Ahmad ati At-Tirmidziyyu ati Haakim l'o gbe e jade.

٢- «اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وَزْرًا،
وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عَبْدِكَ
دَاوُدَ». [رواه الترمذي، والحاكم].

[ALLAHUMMA -K-TUB'LEE BIHAA INDAKA AJRAN, WA DHA'A ANNEE BIHAA WIZRAN, WA -J-ALHAA LEE INDAKA DZUKHRAN, WA TAQABBALHAA MINNEE KAMAA TAQABBALTA MIN ABDIKA DAA'UUD].

« Ọl̄ohun k̄o ẹsan r̄e sil̄e fun mi l̄oḡo R̄e, ki O si ba mi fi pa ọkan ninu aw̄on ẹṣ̄e mi r̄e, ki O si se e fun mi ni ere ti a gbe pam̄o si ọḡo R̄e, wa gba a l̄eṣin fun mi geḡe bi O ti se gba a l̄eṣin fun ẹru R̄e Anabi Daa'uud ». At-Tirmidziyyu ati Haakim l'o gbe e jade.

ATAAYA

« التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ،

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .»

[متفق عليه].

[ATTAAHIYYAATU LI-L-LAH, WA -S-SALAWAAT, WA -T-TAYYIBAAT, ASSALAMU ALAIKA AYYUHAA -N-NABIYYU WA RAHMATU -L-LAHI WA BARAKAATUHU, ASSALAMU ALAINAA WA ALAA IBAADI -L-LAHI -S-SAALIHEEN, ASH'HADU AN LAA ILAA ILLA -L-LAHU WA ASH'HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASUULUH].

« Gbogbo kiki ti Ọlọhun ni i se, gbogbo irun ti Ọlọhun ni, ati pe gbogbo daadaa ti Ọlọhun ni, alaafia Ọlọhun, ati ike Re ati oore Re k'o maa ba iwọ Anabi, alaafia "Ọlọhun Naa" ki o maa ba awa ati awon eru Ọlọhun oluse-rere, mo jeri pe ko si o ba kan ti o to lati-sin lododo yatọ si Ọlọhun, mo si tun jeri pe Anabi Muhammad eru Ọlọhun ni ojise Re si ni pelu ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

ASALATU TI ENIYAN O SE FUN ANABI WA
IKE ATI OLA OLOHUN K'O MAA BA A
LEYIN ATAYA

۱ - « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .» [رواه البخاري].

[ALLAHUMMA SALLI ALAA MUHAMMADIN WA ALAA AALI MUHAMMADIN, KAMAA SALLAITA ALAA IBRAHEEMA WA ALAA AALI IBRAHEEMA INNAKA HAMEEDUN MAJEED, ALLAHUMMA BAARIK ALAA MUHAMMADIN WA ALAA AALI MUHAMMADIN, KAMAA BAARAKTA ALAA IBRAHEEMA WA ALAA AALI IBRAHEEMA INNAKA HAMEEDUN MAJEED].

« Ọlọhun kẹ Anabi Muhammad ati awọn ara ile Anabi Muhammad, gẹgẹ bi O ti se kẹ Anabi Ibrahim ati awọn ara ile Anabi Ibrahim, dajudaju Iwo ni Ọba-eyin Ọba-titobi, Ọlọhun Ọba se ibukun fun Anabi Muhammad ati awọn ara ile Anabi Muhammad, gẹgẹ bi O ti se ibukun fun Anabi Ibrahim ati awọn ara ile Anabi Ibrahim, dajudaju Iwo ni Ọba-eyin Ọba-titobi ». Bukhari l'o gbe e jade.

٢- «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ.»
[متفق عليه].

[ALLAHUMMA SALLI ALAA MUHAMMADIN WA ALAA AZWAAJIHI WA DZURRIYYATIHI, KAMAA SALLAITA ALAA AALI IBRAHEEM, WA BAARIK ALAA MUHAMMADIN WA ALAA AZWAAJIHI WA DZURRIYYATIHI, KAMAA BAARAKTA ALAA AALI IBRAHEEM, INNAKA HAMEEDUN MAJEED].

« Ọlọhun kẹ Anabi Muhammad ati awọn iyawo rẹ ati awọn arọmọdọmọ rẹ, gẹgẹ bi O ti kẹ Anabi Ibrahim

ati awon ara ile Anabi Ibrahim, se ibukun fun Anabi Muhammad ati awon iyawo re ati awon aromodomore, gege bi O ti se ibukun fun Anabi Ibrahim ati awon ara ile Anabi Ibrahim, dajudaju Iwo ni Oba-eyin Oba-titobi ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN O SE LEYIN ATAYA
SIWAJU KI O TOO SALAMA

۱- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ». [متفق عليه].

[ALLAHUMMA INNEE AUUDZU BIKA MIN ADZAABI -L-QABR, WA MIN ADZAABI JAHANNAM, WA MIN FITNATI -L-MAHYAA WA -L-MAMAAT, WA MIN SHARRI FITNATI -L-MASEEHI -D-DAJJAAL].

« Mo n fi Iwo Olohun wa isadi nibi iya saare, ati nibi iya ina jahannama, ati nibi amiwo isemi ati ti iku, ati nibi aburu arito Maseeh Ad-Dajjaal “opuro olojukan” ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

۲- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ». [متفق عليه].

[ALLAHUMMA INNEE AUUDZU BIKA MIN ADZAABI -L-QABR, WA AUUDZU BIKA MIN FITNATI -L-MASEEHI -D-DAJJAAL,

WA AUUDZU BIKA MIN FITNATI -L-MAHYAA WA -L-MAMAAT, ALAHUMMA INNEE AUUDZU BIKA MINA -L-MA'ATHAMI WA -L-MAGRAM].

« Mo n fi Iwo Qlohon wa isadi nibi iya saare, ati nibi arito Maseeh Ad-Dajjaal “opuro olojukan”, mo si n fi Q wa isadi nibi amiwo isemi ati ti iku, Qlohon mo n fi Q wa isadi nibi esese ati gbese ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

٣- «اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ». [متفق عليه].

[ALLAHUMMA INNEE DZALMTU NAFSEE DZULMAN KHATHEERAN, WA LAA YAGFIRU DZUNUUBA ILLA ANTA FAGFIR LEE MAGFIRATAN MIN INDIK, WA -R-HAMNEE INNAKA ANTA -L-GAFUURU -R-RAHEEM].

« Dajudaju Iwo Qlohon, mo ti se abosi fun ori ara mi ni abosi ti o tobi, enikan ki i si se aforijin esese fun ni yatose si Q, se aforijin fun mi ni aforijin kan lati odore, k'O si kesemi, dajudaju Iwo ni Alaforijin Alaaanu». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

٤- «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمَقْدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ». [رواه مسلم].

[ALLAHUMMA -G-FIR LEE MAA QADDAMTU, WA MAA AKH-KHARTU, WA MAA ASRARTU, WA MAA A'ALANTU, WA MAA ASRAFTU, WA MAA ANTA A'ALAMU BIHI MINNEE, ANTA -L-MUQQADIM, WA ANTA -L-MUAKHIR, LAH ILAA ILLA ANT].

« Qlòhun dari awon esè ti mo ti sè siwaju jin mi, ati eyi ti mo sè gbeyin, ati eyi ti mo sè ni kòlòfin, ati eyi ti mo sè ni gbangba, ati eyi ti mo ti tayò ẹnu-ala, ati eyi ti O mọ nipa rẹ ju mi lọ, Iwọ ni Qba ti I fa nnkan si iwaju ti I si fa a sẹyin, ati pe kò si Qba kan ti o tọ lati fi ododo jòsin fun yatọ si Q ». Muslim l'o gbe e jade.

۵- « اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ».

[رواه أبو داود والنسائي].

[ALLAHUMMA A'INNEE ALAA DZIKRIKA WA SHUKRIKA WA HUSNI IBAADATIK].

« Qlòhun se atileyin fun mi lati maa se iranti Rẹ, ati lati maa fi ope fun Q, ati lati maa jòsin fun Q ni ona ti o dara ». Abu-Daa'uud ati An-Nasaa'i l'o gbe e jade.

۶- « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحُبْنِ،

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ

الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ ». [رواه البخاري].

[ALLAHUMMA INNEE AUUDZU BIKA MINA -L-BUKH'L, WA AUUDZU BIKA MINA -L-JUBUN, WA AUUDZU BIKA MIN AN

URADDA ILAA ARDZALI -L-UMUR, WA AUUDZU BIKI MIN FITNATI -D-DUNIYAA WA ADZAABI -L-QABR].

« Mo sadi Iwo Qlohun nibi ahun, ati nibi oḷe, ati nibi ki n je ɛni ti a o da pada si eyi ti o buru ju ninu ogbo, mo si n fi Q wa isadi nibi amiwo ile-aye ati nibi iya saare » .Bukhari l'o gbe e jade.

٧- « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ ». [رواه ابو

داود وابن ماجه].

[ALLAHUMMA INNEE AS'ALUKA -L-JANNAH, WA AUUDZU BIKI MINA -N-NAAR].

« Mo n toro Al-janna -ogba idera- loḷo Iwo Qlohun, mo si n sadi Re nibi ina » . Abu-Daa'uud ati Ibn maajah l'o gbe e jade.

٨- « اللَّهُمَّ بَعِّئْكَ الْعَيْبَ وَقَدِّرْكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْسَنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَشْيَتِكَ فِي الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْعُضْبِ، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْغَنَى وَالْفَقْرِ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشُّوقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ

ضَرَاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةَ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا زَيِّنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ
وَأَجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ». [رواه أحمد والنسائي].

[ALLAHUMMA BI'ILMIKA -L-GAIBA WA QUDRATIKA ALAA -L-KHALQI AHYINEE MAA ALIMTA -L-HAYAATA KHAIRAN LEE, WA TAWAFFANEE IDZAA ALIMTA -L-WAFAATA KHAIRAN LEE, ALLAHUMMA INNEE AS'ALUKA KHASHYATAKA FEE -L-GAIBI WA -SH-SHAHAADAH, WA AS'ALUKA KALIMATA -L-HAQQI FEE -R-RIDHAA WA -L-GADHAB, WA AS'ALUKA -L-QASDA FEE -L-GINAA WA -L-FAQR, WA AS'ALUKA NA'I'EEMAN LAA YANFAD, WA AS'ALUKA QURRATA AININ LAA TANQATI, WA AS'ALUKA -R-RIDHAA BA'ADA -L-QADAA, WA AS'ALUKA BARDA -L-AISHI BA'ADA -L-MAW'T, WA AS'ALUKA LADZATA -N-NADZARI ILAA WAJHIKA WA SH-SHAWQA ILAA LIQAA'IKA FEE GAIRI DHARRAA'A MUDHIRRATIN WA LAA FITNATIN MUDHILLATIN, ALLAHUMMA ZAYYINNA BI ZEENATI -L-IMAANI WA -J-ALNAA HUDAATAN MUHTADEEN].

« Iwo Ọlọhun mo n fi imọ ti O ni nipa ikọkọ ati agbara Re lati da ẹda be Ọ pe ki O je ki n maa semi lopin igba ti O ba mo wi pe isemi l'o ni oore ju fun mi, ki o si pa mi nigba ti O ba mo wi pe iku l'o ni oore ju fun mi, Ọlọhun mo n toro pe ki O se mi ni eni ti yoo maa paya Re ni ikọkọ ati ni gbangba, mo si n toro pe ki O maa fun mi ni ododo so ni asiko idunnu ati ibinu, mo si n toro pe ki O fun mi ni

iwontunwonsi se ni igba ti mo ba wa ninu orọ ati nigba ti mo ba wa ninu aini, mo si n toro awon idera ti ki i tan lodọ Re, mo si n toro itutu oju ti ki i ja lodọ Re, mo si n toro pe ki O fun mi ni iyonu leyin akosile, mo si n toro pe ki O fun mi ni isemi ti o rorun se leyin iku, mo si n toro lodọ Re pe ki o fun mi ni adun wiwo oju Re, ati ijeran atipade Re laisi isoro ti i ni ni lara, tabi amiwo ti i si ni lona, Qlohun se wa loso pelu oso igbagbo-ododo "Imaani", se wa ni olumona ti i fi ni mona ». Ahmad ati An-Nasaa'i l'o gbe e jade.

٩- « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ». [رواه أحمد والنسائي].

[ALLAHUMMA INNEE AS'ALUKA YAA ALLAHU BI'ANNAKA - L-WAAHIDU -L-AHADU -S-SAMADU -L-LADZEE LAM YALID WA LAM YUULAD WA LAM YAKUN LAHU KUFWAN AHAD, AN TAGFIRA LEE DZUNUUBEE INNAKA ANTA -L-GAFUURU -R-RAHEEM].

« Iwo Qlohun mo n toro ni odo Re pe dajudaju Iwo ni Qba-Aso ti O je Qkan-soso, Qba ti a n ronun kan, Qba ti ko bimọ ti enikan ko si bi I, ati pe ko si enikan ti o jo O, pe ki O se aforijin awon esẹ mi fun mi, dajudaju Iwo ni Alaforijin Alaaanu ». Ahmad ati An-Nasaa'i l'o gbe e jade.

١٠ - « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ،
 وَخَدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، الْمَنَّانُ، يَا بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
 يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ ». رواه أصحاب السنن.

[ALLAHUMMA INNEE AS'ALUKA BI'ANNA LAKA -L-HAMDU
 LAA ILAAHA ILLA ANTA WAHDAKA LAA SHAREEKA LAK,
 AL-MANNAAN, YAA BADEE'A -S-SAMAAWATI WA -L-
 ARDH, YAA DZAL JALAALI WA -L-IKRAAM, YAA HAYYU YAA
 QAYYUUM INNEE AS'ALUKA -L-JANNATA WA AUUDZU BIKA
 MINA -N-NAAR].

« Iwo Ọlọhun mo n toṛo ọḍo Re pe dajudaju Iwo I'O
 ni gbogbo ọpe, kò si ọba kan ti o to lati sin lododo
 yatọ si Iwo nikan soso, kò si orogun kan fun O, Ọba-
 ọlọpọlọpọ-ọre, Olupileḍa awon sanma ati ile, Ọba ti
 O ni titobi ati aponle, Ọba Alaaaye Ọba Oludawa mo
 n toṛo Al-Janna -ogba idera- ọḍo Re, mo si n sadi
 Re nibi ina ». Awon oni-tira Sunna I'o gbe e jade.

١١ - « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
 أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا
 أَحَدٌ ». رواه أحمد، وأبو داود والترمذي وابن ماجة.

[ALLAHUMMA INNEE AS'ALUKA BI'ANNEE ASH'HADU
 ANNAKA ANTA -L-LAHU LAA ILAAHA ILLA ANT, -AL-AHADU

-S-SAMADU -L-LADZEE LAM YALID WA LAM YUULAD, WA LAM YAKUN LAHU KUFWAN AHAD].

« Qlòhun, mo n tɔrɔ ɔdɔ Rɛ pe mo jɛri pe Iwɔ ni Qlòhun, kò si ɔba kan ti o tɔ lati fi ododo jòsin fun yatɔ si Q, Qba Qkan-soso, Qba ti a n ronun kan, Qba ti kò bimɔ ti ɛnikan kò si bi I, ati pe kò si ɛnikan ti o jɔ Q ». Ahmad ati Abu-Daa'uud ati At-Tirmidziyyu ati Ibn Maajah l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN O SE LEYIN IGBA TI O BA SALAMA 'LEYIN IRUN'

١ - « أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ » [ثَلَاثًا]، اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ». [رواه مسلم].

[ASTAGFIRU -L-LAH]; Iɛɛmɛta.

« Mo n tɔrɔ aforijin ɔdɔ Qlòhun ».

[ALLAHUMMA ANTA -S-SALAAM, WA MINKA -S-SALAAM, TABAARAKTA YAA DZA -L-JALAALI WA -L-IKRAAM].

« Iwɔ Qlòhun ni Qba Alaafia, ɔdɔ Rɛ ni alaafia ti n wa, ibukun ni fun Q, Qba ti O ni titobi ati aponle ». Muslim l'o gbe e jade.

٢ - « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ». [متفق عليه].

[LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WAHDAHU LAA SHAREEKA LAH, LAHU -L-MULKU WA LAHU -L-HAMDU WA HUWA ALAA

KULLI SHAIN IN QADEER, ALLAHUMMA LAA MAANI'A LIMAA A'ATAIT, WA LAA MU'UTIYA LIMAA MANA'AT, WA LAA YANFA'U DZA -L-JADDI MINKA -L-JADD].

« Kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọlọhun nikan soso, kò si orogun kan fun Un, Oun l'O ni gbogbo ijọba ati gbogbo ọpẹ, Oun si ni Alagbara lori gbogbo nnkan, Iwọ Ọlọhun kò si ẹnikan ti o le dina ohun ti O ba pe ni ẹni, kò si si ẹnikan ti o le fun ni ni nnkan ti O kọ lati fun ni, ati pe ọrọ ọlọrọ kan kò le se e ni anfaani ọdọ Rẹ ».

Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

۳- « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَهُوَ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَهُوَ الْفَضْلُ وَهُوَ الشَّاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ». [رواه مسلم].

[LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WAHDAHU LAA SHAREEKA LAH, LAHU -L-MULKU WA LAHU -L-HAMDU WA HUWA ALAA KULLI SHAIN IN QADEER, LAA HAWLA WA LAA QUWWATA ILLA BI -L-LAH, LAA ILAAHA ILLA -L-LAH, WA LAA NA'ABUDU ILLA IYYAH, LAHU -N-NI'IMATU WA LAHU -L-FADHLU WA LAHU -TH-THANA'AU -L-HASAN, LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU MUKHLISEENA LAHU -D-DEENA WA LAW KARIHA -L-KAAFIRUUN].

« Kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọlọhun nikan soso, kò si orogun kan fun Un, Oun l'O ni gbogbo ijọba ati gbogbo ọpẹ, Oun si ni Alagbara lori gbogbo nnkan, kò si ọgbọn kan, bẹẹ ni kò si agbara kan lẹyin Ọlọhun, kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọlọhun, awa kò ni i jọsin fun ẹlomiran t'o yatọ si I, Oun l'O ni gbogbo idera ati gbogbo ajulọ, ti Ẹ si ni gbogbo ẹyin daadaa i se, kò si ọba kan ti o tọ pe ki a fi ododo jọsin fun yatọ si Ọlọhun, awa o maa se afọmọ ẹsin wa fun Un awọn alaigbagbọ i baa ma fẹ bẹẹ ». Muslim l'o gbe e jade.

٤ - « سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، [ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ]، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ». [رواه مسلم].

Yoo sọ pe: [SUBHAANA -L-LAH, WA -L-HAMDU LI -L-LAH, WA -L-LAHU AKBAR], ni igba mẹtalelọgbọn, lẹyin naa ni yoo wa sọ pe: [LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WAHDHU LAA SHAREEKA LAH, LAHU -L-MULKU WA LAHU -L-HAMDU WA HUWA ALAA KULLI SHAIN IN QADEER]. Muslim l'o gbe e jade.

5- Eniyan yoo maa ka awọn kewu ti n bọ wonyi lẹyin gbogbo irun kọọkan:-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾ .

BISMI -L-LAHI -R-RAHMAANI -R-RAHEEM [QUL HUWA -L-LAHU AHAD* ALLAHU -S-SAMAD* LAM YALID WA LAM YUULAD* WA LAM YAKUN LAHU KUFWAN AHAD].

Ni orukọ Ọlọhun Ọba Alaaanujulo Aladipele-ẹsan-rere « Sọ pe: Oun ni Ọlọhun Ọba Ọkan-soso. Ọlọhun ni Ọba ti a maa n ronu kan. Kò bimọ, bẹẹ ni ẹnikan ò bi I. Ati pe kò si ẹnikan ti o jọ Ọ ».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿٢﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٥﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٦﴾ .

BISMI -L-LAHI -R-RAHMAANI -R-RAHEEM [QUL AUUDZU BI RABBI -L-FALAQ* MIN SHARRI MAA KHALAQ* WA MIN SHARRI GAASIQIN IDZAA WAQAB* WA MIN SHARRI -N-NAFAATHAATI FEE -L-UQAD* WA MIN SHARRI HAASIDIN IDZAA HASAD].

Ni orukọ Ọlọhun Ọba Alaaanujulo Aladipele-ẹsan-rere « Sọ pe: Mo sadi Oluwa owuro kutukutu. Kuro nibi aburu ohun ti Ọ da. Ati kuro nibi aburu oru nigba ti o ba su biribiri. Ati kuro nibi aburu awon opidan ti won maa n pofọ sinu koko [ti won maa n ta]. Ati kuro nibi aburu onilara nigba ti o ba n se ilara ».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿٢﴾ مِنْ شَرِّ مَا
 خَلَقَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي
 الْعُقَدِ ﴿٥﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٦﴾ .

BISMI -L-LAHI -R-RAHMAANI -R-RAHEEM [QUL AUUDZU BI
 RABBI -N-NAAS* MALIKI -N-NAAS* ILAAHI -N-NAAS*
 MIN SHARRI -L-WASWAASI -L-KHANNAAS* AL-LADZEE
 YUWASWISU FEE SUDUURI -N-NAAS* MINA -L-JINNATI
 WA -N-NAAS].

Ni orukọ Ọlọhun Ọba Alaaanujulo Aladipele-ẹsan-
 rere « Sọ pe: Mo sadi Oluwa awọn eniyan. Ọba
 awọn eniyan. Ọlọhun awọn eniyan. Kuro nibi aburu
 iroyiroyi esu ti o n sapamọ [sinu ọkan]. Eni ti maa n
 sọ iroyiroyi sinu igbaaya awọn eniyan. Laarin awọn
 alujannu ati awọn eniyan ».

6- Yoo tun maa ka aayah yii leyin irun kọọkan:-

﴿١﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَمْ يَلِدْ
 وَالسَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ
 أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ
 كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢﴾ .

[ALLAHU LA A ILAAHA ILLA HUWA -L-HAYYU -L-QAYYUMU LA A TA'AKHUDZUHU SINATUN WA LA A NAWMUN LAHU MAA FEE -S-SAMAAWAATI WA MAA FEE -L-ARDHI MAN DZA -L-LADZEE YASHFAU INDAHU ILLA BI IDZNIHI YA'ALAMU MAA BAINA AIDIHIM WA MAA KHALFAHUM WA LA A YUHEETUUNA BI SHAIN IN MIN ILMIHI ILLA BI MAA SHAA'A WASIA KURSIYYUHU -S-SAMAAWAATI WA -L-ARDHA WA LA A YA'UUDUHU HIFDZUHUMAA WA HUWA -L-ALIYYU -L-ADZEEM].

« Allahu "Qolohun", kò si ɔba kan ti o tɔ lati fi ododo jɔsin fun yatɔ si I, Alaaaye, Oludawa, ki I toogbe, beɛ ni ki I sun rara. Tiɛ ni gbogbo ohun t'o wa ni sanma ati ohun t'o wa niɛ. ɛnikan kò ni i le sipɛ ni ɔɔ Rɛ, afi pɛlu iyɔnda Rɛ. O mɔ ohun ti n bɛ niwaju wɔn ati ohun ti n bɛ lɛyin wɔn, ati pe wɔn kò ni i le rɔkirika nnkan kan ninu imɔ Rɛ afi ohun t'o ba fɛ, aga Rɛ gbaye ju awɔn sanma ati ilɛ lɔ. Beɛ ni isɔ awɔn mejeeji kò ko aarɛ ba A. Oun ni ɔba-giga, ɔba-titobi ».

7- Yoo si maa wi awɔn gbolohun ti n bɔ wɔnyi ni ɛmɛwa lɛyin irun Magrib ati irun Asuba:-

« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ شَرِيكٌ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي

وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ». [رواه أحمد والترمذي].

[LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WAHDHU LAA SHAREEKA LAH,
LAHU -L-MULKU WA LAHU -L-HAMDU YUHYEE WA YUMEET,
WA HUWA ALAA KULLI SHAIN IN QADEER].

« Kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si
Ọlọhun nikan soso, kò si orogun fun Un, Oun l'O ni
akoso ati ọpẹ, Oun ni I mu ni sẹmi, bẹẹ ni Oun naa
ni I pa ni, Oun si ni Alagbara lori gbogbo nnkan ».
Ahmad ati At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

8- Yoo si maa wi awọn gbolohun ti n bọ wọnyi lẹyin
ti o ba salama ni irun Asuba:-

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا
مُتَقَبَّلًا ». [رواه ابن ماجة].

[ALLAHUMMA INNEE AS'ALUKA ILMAN NAAFIAN, WA
RIZQAN TAYYIBAN, WA AMALAN MUTAQABBALAN].

« Iwọ Ọlọhun, mo n tọrọ imọ alanfaani lọdọ Rẹ, ati
orọ ti o dara, ati isẹ ti yoo jẹ atẹwọgba ». Ibn Maajah l'o
gbe e jade.

ADUA IRUN ATITORO OORE [TITORO LODO OLOHUN PE KI O DARI ENI LO SIDI OHUN TI O LOORE LAYE ATI LORUN]

Jaabir Ibn Abdullah, 'ki Ọlọhun O yonu si
awọn mejeeji', sọ pe: Ojise Ọlọhun "ki ikẹ ati ọla
Ọlọhun o maa ba a" a maa kọ wa ni bi a o ti se maa
wa imọ nipa oore ti n bẹ ninu gbogbo nnkan, gege bi
o ti se maa n kọ wa ni ọgba-ọrọ "Suura" Al-Qur'aan,
a maa sọ pe: « Ti ẹnikan yin ba se akolekan atise

nnkan kan, ki o ki raka meji yatọ si irun ọranyan,
leyin naa ki o maa sọ pe:

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ
مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ،
وَأَنْتَ عَالِمُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ
[ويسمي حاجته] خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي [أو
قال: عَاجِلُهُ وَآجِلُهُ] فَاقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ،
وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ
أَمْرِي [أو قال: عَاجِلُهُ وَآجِلُهُ] فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ
وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ ». [رواه البخاري].

[ALLAHUMMA INNEE ASTAKHEERUKA BI ILMIK, WA
ASTAQDIRUKA BI QUDRATIK, WA AS'ALUKA MIN FADHLIKA
-L-ADZEEM, FA INNAKA TAQDIRU WA LA A AQDIR, WA
TA'ALAM WA LA A'ALAM, WA ANTA ALLAAMU -L-
GUYUUB, ALLAHUMMA IN KUNTA TA'ALAMU ANNA
HAADZAA -L-AMRA [*Yoo sọ ohun ti o fẹ se naa ni ibi
yii*] KHAIRUN LEE FEE DEENEE WA MA'AASHEE WA
AAQIBATI AMREE, [AAJILIHU WA AAJILIHU] FAQDIRHU LEE
WA YASSIRHU LEE THUMMA BAARIK LEE FEEH, WA IN
KUNTA TA'ALAMU ANNA HAADZAA -L-AMRA SHARRUN LEE
FEE DEENEE WA MA'AASHEE WA AAQIBATI AMREE,

[AAJILIHU WA AAJILIHU] FASRIFHU ANNEE WA -S-RIFNEE
 ANHU WA -Q-DUR LIYA -L-KHAIRA HAITHU KAANA
 THUMMA ARDHINEE BIHI]:

« Iwọ Ọlọhun, mo n fi imọ Rẹ tọrọ oore Rẹ, mo si n
 fi agbara Rẹ tọrọ agbara -ati ikapa- ọdọ Rẹ, mo si n
 tọrọ ọdọ Rẹ ninu ajulọ Rẹ ti o tobi, nitori wi pe Iwọ
 ni O lagbara “lati se ohun-kohun” emi kò ni agbara,
 Iwọ l’O mọ, emi kò mọ, Iwọ ni Olumọ nipa gbogbo
 ikọkọ, ti Iwọ Ọlọhun ba mọ wi pe ohun ti mo fẹ se
 yii [ibi ni a sọ pe yoo ti wi ohun ti o fẹ se] oore ni
 yoo jẹ fun mi ni ọrun mi ati ni igbesi-aye mi ati
 atunbọtan ọrọ mi, kọ akoole rẹ fun mi, si se e ni
 irọrun fun mi, wa fi oore si i fun mi; sugbọn ti o ba
 mọ wi pe aburu ni nnkan yii yoo jẹ fun mi ni ọrun mi
 ati ni igbesi-aye mi ati atunbọtan ọrọ mi, ba mi sẹri
 rẹ kuro ọdọ mi, ki O si sẹri mi kuro ọdọ rẹ, ki O wa
 kọ akọlẹ eyi ti o dara ju fun mi nibikibi ti o ba wa,
 ki O si yọ mi ninu pẹlu rẹ ». Bukhari l’o gbe e jade.

“Eni ti o tọrọ oore [ti n bẹ ninu ohun ti o fẹ se]
 ọdọ Eleda, ti o si gba imọran ọdọ awọn ti wọn jẹ
 olugbagbọ-ododo ninu awọn ẹda Ọlọhun, ti o si fi
 ara balẹ lori ọrọ rẹ -ti ko kanju-, kò ni i se abamọ tori
 pe Ọlọhun Ọba-mimọ sọ pe:

﴿ وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ [سورة آل عمران :

. [۱۵۹

« Maa se ijiroro lori orọ naa peḷu wọn, nigba ti o ba wa pinnu [lati gbe igbesẹ kan] ba Ọlọhun duro ».
 Qur'aan [3:159].

AWON ADUA ORU ATI TI OSAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ لَأَنْبِيَّ بَعْدَهُ

Ọpẹ ni fun Ọlọhun, ikẹ ati ọla Ọlọhun k'o maa ba ẹni ti kò si anabi miiran leyin rẹ.

١ - أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ
 ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا
 يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿ ﴿١٥٩﴾

AUUDZU BI -L-LAHI MINA -SH-SHAITAANI -R-RAJEEM:
 (ALLAHU LAA ILAAHA ILLA HUWA -L-HAYYU -L-
 QAYYUUMU LAA TA'AKHUDZUHU SINATUN WA LAA
 NAWMUN LAHU MAA FEE -S-SAMAAWAATI WA MAA
 FEE -L-ARDHI MAN DZA -L-LADZEE YASHFAU INDAHU
 ILLA BI IDZNIHI YA'ALAMU MAA BAINA AIDIHIM WA
 MAA KHALFAHUM WA LAA YUHEETUUNA BI SHAIN IN
 MIN ILMIHI ILLA BI MAA SHAA'A WASIA KURSIYYUHU -

**S-SAMAAWAATI WA -L-ARDHA WA LAH YA'UUDUHU
HIFDZUHUMAA WA HUWA -L-ALIYYU -L-ADZEEM].**

2- Yoo ke okokkan ninu awon Suura ti n bo wonyi ni
çemeta:-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿٢﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٣﴾
لَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾ .

**BISMI -L-LAHI -R-RAHMAANI -R-RAHEEM [QUL HUWA -L-
LAHU AHAD* ALLAHU -S-SAMAD* LAM YALID WA LAM
YUULAD* WA LAM YAKUN LAHU KUFWAN AHAD].**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿٢﴾ مِنْ شَرِّ مَا
خَلَقَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي
الْعُقَدِ ﴿٥﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٦﴾ .

**BISMI -L-LAHI -R-RAHMAANI -R-RAHEEM [QUL AUUDZU BI
RABBI -L-FALAQ* MIN SHARRI MAA KHALAQ* WA MIN
SHARRI GAASIQIN IDZAA WAQAB* WA MIN SHARRI -N-
NAFAATHAATI FEE -L-UQAD* WA MIN SHARRI
HAASIDIN IDZAA HASAD].**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿٢﴾ مَلِكٍ
النَّاسِ ﴿٣﴾ إِلَهٍ النَّاسِ ﴿٤﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٥﴾
الَّذِي يُوسَسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٦﴾ .

BISMI -L-LAHI -R-RAHMAANI -R-RAHEEM [QUL AUUDZU BI RABBI -N-NAAS* MALIKI -N-NAAS* ILAAHI -N-NAAS* MIN SHARRI -L-WASWAASI -L-KHANNAAS* AL-LADZEE YUWASWISU FEE SUDUURI -N-NAAS* MINA -L-JINNATI WA -N-NAAS].

٣- « أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ وَعَذَابِ فِي الْقَبْرِ ». [رواه مسلم].

[ASBAHNA WA ASBAHA -L-MULKU LI -L-LAH, AL-HAMDU LI -L-LAH, LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WAHDAHU LAA SHAREEKA LAH, LAHU -L-MULKU WA LAHU -L-HAMDU WA HUWA ALAA KULLI SHAIN IN QADEER, RABBI AS'ALUKA KHAIRA MAA FEE HAADZA -L-YAWMI WA KHAIRA MAA BA'ADAH, WA AUUDZU BIKA MIN SHARRI MAA FEE HAADZA -L-YAWMI WA SHARRI MAA BA'ADAH, RABBI AUUDZU BIKA MIN ADZAABIN FEE -N-NAARI WA ADZAABIN FEE -L-QABR].

« A ji saye, akoso naa si ji fun Qlqhun, ope ni fun Qlqhun, ko si o ba kan ti o to lati fi ododo josin fun yatq si Qlqhun nikan soso, ko si orogun kan fun Un,

tiE ni ọla i se, beę ni Oun l'O ni gbogbo ẹyin, ati pe Oun ni Alagbara lori gbogbo nnkan, Oluwa mi mo n tọrọ oore ti n be ninu ọjọ oni ọdọ Rẹ, ati oore ohun ti n be ẹyin rẹ, mo si n sadi Rẹ nibi aburu ti n be ninu ọjọ oni, ati aburu ohun ti n be ẹyin rẹ, Oluwa mi mo n fi Ọ wa isadi nibi oroju, ati aburu ogbo, Oluwa mi mo n sadi Rẹ nibi iya kan ninu ina ati nibi iya kan ninu saare ». Muslim l'o gbe e jade.

٤ - « اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورِ ». [رواه الترمذی].

[ALLAHUMMA BIKA ASBAHNAA, WA BIKA AMSAI'NAA, WA BIKA NAHYAA WA BIKA NAMUUT, WA ILAIKA -N-NUSHUUR].

« Iwọ Ọlọhun l'O mu wa ji saye, Iwọ Naa l'O mu wa di irọwọ, Iwọ l'O N mu wa sẹmi, Iwọ naa l'O pa wa, beę ni ọdọ Rẹ ni igbende gbogbo ẹda yoo jẹ ». At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

٥ - « اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ». »

[ALLAHUMMA ANTA RABBEE LAA ILAAHA ILLA ANT, KHALAQTANEE WA ANA ABDUK, WA ANA ALAA A'ADIKA

WA WA'ADIKA MAA -S-TATA'AT, AUUDZU BIKI MIN SHARRI MAA SANA'ATU, ABUU'U LAKA BI-NI'IMATIKA ALAIYYA, WA ABUU'U LAKA BI-DZAMBEE FAGFIR'LEE FA-INNAHU LAA YAGFIRU -D-DZUUBA ILLA ANTA].

« Iwo Ọlọhun ni Oluwa mi kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si O, Iwo l'O da mi, ẹru Rẹ ni mi, mo n bẹ lori majemu Rẹ ati adehun Rẹ ni odiwon bi mo ti se lagbara mo, mo n fi Ọ wa isadi nibi aburu ohun ti mo se, mo gba wi pe O se awon idera Rẹ le mi lori, mo si n jẹwo awon ẹsẹ mi fun Ọ, se aforijin fun mi, tori pe kò si ẹnikan ti i se aforijin awon ẹsẹ ẹni fun ni yato si Ọ ». Bukhari l'o gbe e jade.

٦- « اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أَشْهَدُكَ وَأَشْهَدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ،

وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ، إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

وَخَدَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ. »

[أربع مرات]. [رواه أبو داود وغيره].

[ALLAHUMMA INNEE ASBAHTU USH'HIDUKA WA USH'HIDU HAMALATA ARSHIK, WA MALAAIKATAKA WA JAMI'EE'A KHALKIK, ANNAKA ANTA -L-LAHU LAA ILAAHA ILLA ANTA WAHDAKA LAA SHAREEKA LAK, WA ANNA MUHAMMADAN ABDUKA WA RASUULUK]; lẹmẹrin.

« Iwo Ọlọhun mo ji saye, mo n fi Iwo ati awon Malaika ti won ru aga-ola Rẹ, ati awon Malaika Rẹ yoku, ati gbogbo awon ẹda Rẹ se ẹleri wi pe: Iwo ni

Ọlọhun Ọba ti kò si ọba miiran ti o tọ lati fi ododo ọsin fun yatọ si Ọ, ni Iwọ nikan soso, kò si orogun kan fun Ọ, ati pe Anabi Muhammad ẹru Rẹ ni i se ojise Rẹ si ni ọlu » . Abu-Daa'uud ati awon miiran l'o gbe e jade.

۷- «اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحَدِّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ» . [رواه أبو داود وغيره].

[ALLAHUMMA MAA ASBAHA BEE MIN NI'IMATIN AW BI'AHADIN MIN KHALQIKA FAMINKA WAHDAKA LAA SHAREEKA LAK, FALAKA -L-HAMDU WA LAKA -SH- SHUKR].

« Iwọ Ọlọhun, ọdọ Rẹ nikan ni gbogbo idera ti o ba emi tabi eyi ti o ba ọkan ninu awon ẹru Rẹ ji ti wa, kò si orogun fun Ọ, ẹyin ni fun Ọ, ọpe si ni fun Ọ » . Abu-Daa'uud ati awon miiran l'o gbe e jade.

۸- «اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ» . (ثلاث مرات) . [رواه أبو داود وغيره].

[ALLAHUMMA AAFINEE FEE BADANEE, ALLAHUMMA AAFINEE FEE SAM'EE, ALLAHUMMA AAFINEE FEE BASAREE, LAA ILAAHA ILLA ANT. ALLAHUMMA INNEE AUUDZU BIKA MINA -L-KUFR, WA FAQR, WA AUUDZU BIKA MIN ADZAABI -L-QABR, LAA ILAAHA ILLA ANT]; leṣemeta.

« Iwo Qlohun, fun mi ni alaafia ni ara mi, Iwo Qlohun, fun mi ni alaafia ninu igboro mi, Iwo Qlohun, fun mi ni alaafia ninu iriran mi, ko si o ba kan ti o to lati fi ododo josin fun yato si O, Iwo Qlohun mo n fi O wa isadi nibi aigbagbo, ati osi, mo si n sadi Re nibi iya saare, ko si o ba kan ti o to lati fi ododo josin fun yato si O ». Abu-Daa'uud ati awon miiran l'o gbe e jade.

٩- « حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ رَبُّ

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ » [سبع مرات]. [العرش ابن السني وغيره].

[HASBIYA -L-LAHU LAA ILAAHA ILLA HUWA ALAIHI TAWAKKALTU WA HUWA RABBU -L-ARSHI -L-ADZEEM]; leemeje.

« Qlohun to mi, ko si o ba kan ti o to lati fi ododo josin fun yato si I, Oun ni mo gbekere, Oun ni Oluwa Alaga o la titobi ».

١٠- « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي،

وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتَرْ عَوْرَاتِي، وَأَمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ

بَيْنَ يَدَيْ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ

فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي ». [رواه ابو داود وابن

ماحة].

[ALLAHUMMA INNEE AS'ALUKA -L-AFWA WA -L-AAFIYATA FEE -D-DUNIYA WA -L-AAKHIRAH, ALLAHUMMA INNEE AS'ALUKA -L-AFWA WA -L-AAFIYATA FEE DEENEE WA DUNYAAYA WA AHLEE, WA MAALEE, ALLAHUMMA -S-TUR AWRAATEE, WA AAMIN RAW'AATEE, ALLAHUMMA -H'FADZNEE MIN BAINI YADAYYA, WA MIN KHALFEE, WA AN YAMEENEE, WA AN SHIMAALEE, WA MIN FAWQEE, WA AUUDZU BI ADZAMATIKA AN UGTAALA MIN TAHTEE].

« Iwo Ọlọhun, mo n toṣo amojukuro ati alaafia loṣo Re ni aye ati loṣun, Ọlọhun, mo n toṣo pe ki o se amojukuro ati alaafia fun mi ni oṣun mi ati ni aye mi ati lara ebi mi, ati owo mi, Ọlọhun ba mi gbe awon alebu mi pamọ, fi mi loṣan bale nibi awon ifoya mi "le won jinna si mi", Iwo Ọlọhun, so mi ni iwaju mi, ati leyin mi, ati lapa otun mi, ati lapa alaafia mi, ati ni oke mi, mo si n fi titobi Re wa isadi nibi ki a yo mi pa lati isale mi ». Abu-Daa'uud ati Ibn Maajah l'o gbe e jade.

۱۱ - « اللَّهُمَّ عَالَمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَه، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا، أَوْ أُجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ ». [رواه أبو داود والترمذي].

[ALLAHUMMA AALIMA -L-GAIBI WA -SH-SHAHAADATI FAATIRA -S-SAMAAWATI WA -L-ARDH, RABBA KULLI SHAIN IN WA MALEEKIHI, ASH'HADU AN LAA ILAAHA ILLA ANT,

AUUDZU BIKI MIN SHARRI NAFSEE, WA MIN SHARRI -SH-SHAITAANI WA SHIRKIHI 'WA SHARAKIHI', WA AN AQTARIFA ALAA NAFSEE SUU'AN, AW AJURRAHU ILAA MUSLIM].

« Iwọ Ọlọhun Olumọ ikọkọ ati gbangba, Olupileḁa awọn sanma ati ile, Oluwa gbogbo nnkan ati Olowo wọn, mo jẹri pe kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọ, mo n fi Ọ wa isadi kuro nibi aburu ara mi, ati nibi aburu esu, ati isẹbọ si Ọlọhun ti i maa n pe ni lọ sidi rẹ “tabi ati ete rẹ”, ati kuro nibi ki n se ori ara mi ni aburu, tabi ki n fa a lọ ba Musulumi ». Abu-Daa'uud ati Ibn Maajah l'o gbe e jade.

۱۲ - « بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ » [ثَلَاثَ مَرَاتٍ]. [رواه احمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه].

[BISMI -L-LAHI -L-LADZEE LAA YADHURRU MA'A -S-MIHI SHAI'UN FEE -L-ARDHI WA LAA FEE -S-SAMAAI WA HUWA -S-SAMEE'U -L-ALEEM]; leḁmẹta.

« Ni orukọ Ọlọhun, Ẹni ti O se pe nnkan kan ti o wa nilẹ tabi ni sanma kò le e ni ni lara lopin igba ti a ba ti darukọ Rẹ, Oun ni Olugbọrọ Oni-mimọ ». Ahmad ati Abu-Daa'uud ati At-Tirmidziyyu ati Ibn Maajah l'o gbe e jade.

۱۳ - « رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا » [ثَلَاثَ مَرَاتٍ]. [رواه احمد وغیره].

[RADHEETU BI -L-LAHI RABBAN, WA BI -L-ISLAAMI DEENAN, WA BI'MUHAMMADIN SALLA -L-LAHU ALAIHI WA -S-SALLAMA NABIYYAN]; leçemeta.

« Mo gba Qlqhun ni Oluwa, mo si gba Islam leşin, mo si gba Muhammad ni anabi ». Ahmad ati awon miiran l'o gbe e jade.

١٤ - « يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ ». [رواه الحاكم].

[YAA HAYYU YAA QAYYUUMU BI'RAHMATIKA ASTAGEETHU ASLIH LEE SHA'ANEE KULLAHU WA LAA TAKILNEE ILAA NAFSEE TARFATA AIN].

« Iwo Qba Alaaaye! Iwo Qba Oludaduro! -ti ko bukata enikan ti gbogbo nnkan si n bukata Re-, aanu Re ni mo n fi n wa iranlowo, ba mi tun gbogbo qoro mi se, ma se da mi dara mi ni odiwon isaju akan ». Al-Haakim l'o gbe e jade.

١٥ - « أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ، فَتَحَهُ، وَنَصَرَهُ، وَتَوْرَهُ، وَبَرَكَتَهُ، وَهُدَاهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ ». [رواه أبو داود].

[ASBAHNA WA ASBAHA -L-MULKU LI -L-LAHI RABBI -L-AALAMEEN, ALLAHUMMA INNEE AS'ALUKA KHAIRA HAADZAA -L-YAWM, FAT'HAHU, WA NASRAHU, WA NUURAHU, WA BARAKATAHU, WA HUDAAHU, WA AUUDZU BIKA MIN SHARRI MAA FEEHI WA SHARRI MAA BA'ADAH].

« A ji saye, akoso naa si ji fun Ọlọhun Ọba gbogbo ẹda, Iwo Ọlọhun mo n toro oore oni loḍo Re: iseḡun re, ati aranse re, ati imole re, ati oore re, ati imona re, mo si n sadi Re nibi aburu ohun ti n be ninu re ati aburu ohun ti n be leyin re ». Abu-Daa'uud l'o gbe e jade.

١٦ - « أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيمَ، حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ». [رواه أحمد وابن السني].

[ASBAHNA ALAA FITRATI -L-ISLAM WA ALAA KALIMATI . L- IKHLAAS, WA ALAA DEENI NABIYYINAA MUHAMMADIN SALLA -L-LAHU ALAIHI WA -S-SALLAM, WA ALAA MILLATI ABEENAA IBRAAHIMA HANEEFAN MUSLIMAN WA MAA KAANA MINA -L-MUSHRIKEEN].

« A ji si ori esin Islam ati si ori gbolohun afomọ -sise Ọlọhun Ọba laaso ninu ijosin-, ati si ori esin Anabi wa Muhammad ike ati ola Ọlọhun k'o maa ba a, ati lori ilana baba wa Anabi Ibrahim, eni ti o fi ona ti ko to silẹ lo si eyi ti o to, ti o si je olugbafa fun Ọlọhun [Musulumu], beje ni ko je okan ninu awon osebo rara». Ahmad ati Ibn Sunni l'o gbe e jade.

١٧ - « سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ » [مائة مرة]. [رواه مسلم].

[SUBHAANA -L-LAHI WA BI HAMDIHI]; ni igba ogorun.

« Mimọ ni fun Ọlọhun, ope si ni fun Un ».

١٨ - « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » [عشر مرات]. رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، وغيره. أو [مرة واحدة عند الكسل]. [رواه أبو داود وابن ماجه].

[LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WAHDAHU LAA SHAREEKA LAH, LAHU -L-MULKU WA LAHU -L-HAMD, WA HUWA ALAA KULLI SHAIN IN QADEER]; leṣemewa tabi leṣkan nigba ti oraju ba n seyan.

« Kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọlọhun nikan soso, kò si orogun kan fun Un, Oun l'O ni ọla ati ọpe, Oun si ni Alagbara lori gbogbo nnkan ».

١٩ - « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » [مائة مرة إذا أصبح]. [متفق عليه].

[LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WAHDAHU LAA SHAREEKA LAH, LAHU -L-MULKU WA LAHU -L-HAMD, WA HUWA ALAA KULLI SHAIN IN QADEER]; ni igba ọgọrun nigba ti eniyan ba ji saye.

« Kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọlọhun nikan soso, kò si orogun kan fun Un, Oun l'O ni ijọba ati ọpe, Oun si ni Alagbara lori gbogbo nnkan » . Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

٢٠ - « سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ: عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضًا نَفْسِهِ، وَزِينَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ » [ثلاث مرات إذا أصبح]. [رواه مسلم].

[SUBHAANA -L-LAHI WA BI HAMDIHI: ADADA KHALQIHI, WA RIDHAA NAFSIHI, WA ZINNATA ARSHIHI WA MIDAADA KALIMAATIHI] leçemeta; nigba ti eniyan ba ji saye.

« Mimọ ni fun Ọlọhun, ope ni fun Un: Ni onka awon e da Re, ati ni odiwon iye ti O yonu si, ati osunwon aga ọla Re, ati iye tada awon orọ Re ». Muslim l'o gbe e jade.

٢١ - « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا » [إذا أصبح]. [رواه ابن ماجة وغيره].

[ALLAHUMMA INNEE AS'ALUKA ILMAN NAAFIAN, WA RIZQAN TAYYIBAN, WA AMALAN MUTAQABBALAN]; nigba ti o ba ji saye.

« Iwo Ọlọhun, mo n toro imo alanfaani lodọ Re, ati oro ti o dara, ati ise ti yoo je atewogba ». Ibn Maajah ati awon miiran l'o gbe e jade.

٢٢ - « أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ » [مائة مرة في اليوم]. [تفق عليه].

[ASTAGFIRU -L-LAHA WA ATUUBU ILAIHI]; nigba ogorun lojumọ.

« Mo n toro aforijin lodọ Ọlọhun, mo si n ronupiwada lo si odọ Re ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

۲۳- « أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ » [ثَلَاثَ
مرات إذا أمسى]. [روه احمد وغوه].

[AUUDZU BI KALIMAATI -L-LAHI -T-TAMMAATI MIN SHARRI
MAA KHALAQ]; leṣemeta nigba ti eniyan ba leṣe.

« Mo n fi awon gbolohun Olohun ti o pe wa isadi
nibi aburu ohun ti O da ». Ahmad ati awon miiran l'o gbe e jade.

۲۴- « اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ » [عشر مرات].
[أخرجه الطبراني].

[ALLAHUMMA SALLI WA SALLIM ALAA NABIYYINAA
MUHAMMAD]; leṣemeta.

« Iwo Olohun, se ike ati igbe fun Anabi wa
Muhammad ». Al-Tabaraaniyyu l'o gbe e jade.

AWON ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA FE SUN

1- « Yoo pa owo re mejeji po, yoo si tuto si won,
yoo wa ka awon kewu ti n bo wonyi sinu won
leṣemeta:-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾
لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٣﴾﴾ .

BISMI -L-LAHI -R-RAHMAANI -R-RAHEEM [QUL HUWA -L-
LAHU AHAD* ALLAHU -S-SAMAD* LAM YALID WA LAM
YUULAD* WA LAM YAKUN LAHU KUFWAN AHAD].

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿٢﴾ مِنْ شَرِّ مَا
خَلَقَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي
الْعُقَدِ ﴿٥﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٦﴾ .

BISMI -L-LAHI -R-RAHMAANI -R-RAHEEM [QUL AUUDZU BI
RABBI -L-FALAQ* MIN SHARRI MAA KHALAQ* WA MIN
SHARRI GAASIQIN IDZAA WAQAB* WA MIN SHARRI -N-
NAFAATHAATI FEE -L-UQAD* WA MIN SHARRI
HAASIDIN IDZAA HASAD].

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿٢﴾ مَلِكِ
النَّاسِ ﴿٣﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٤﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٥﴾
الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٦﴾ .

BISMI -L-LAHI -R-RAHMAANI -R-RAHEEM [QUL AUUDZU BI
RABBI -N-NAAS* MALIKI -N-NAAS* ILAHI -N-NAAS*
MIN SHARRI -L-WASWAASI -L-KHANNAAS* AL-LADZEE
YUWASWISU FEE SUDUURI -N-NAAS* MINA -L-JINNATI
WA -N-NAAS].

Ḳeyin eleyii yoo fi ọwọ mejeeji naa pa eyi ti o ba rọ
ọ lọrun ninu ara rẹ, bẹrẹ lati ori ati oju rẹ. [Yoo se
bẹẹ lẹmẹta] ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

٢ - ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْغَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لِمَا
فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِندِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ
 وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ
 الْعَظِيمُ ﴿

[ALLAHU LAA ILAHA ILLA HUWA -L-HAYYU -L-
 QAYYUMU LAA TA'AKHUDZUHU SINATUN WA LAA
 NAWMUN LAHU MAA FEE -S-SAMAAWAATI WA MAA
 FEE -L-ARDHI MAN DZA -L-LADZEE YASHFAU INDAHU
 ILLA BI IDZNIHI YA'ALAMU MAA BAINA AIDIHIM WA
 MAA KHALFAHUM WA LAA YUHEETUUNA BI SHAIN IN
 MIN ILMIHI ILLA BI MAA SHAA'A WASIA KURSIYYUHU -
 S-SAMAAWAATI WA -L-ARDHA WA LAA YA'UUDUHU
 HIFDZUHUMAA WA HUWA -L-ALIYYU -L-ADZEEM].
 [Qur'aan: 2:255].

۳ - ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ، وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ
 بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، لَا يَفْرُقُونَ بَيْنَ رُسُلِهِ، وَقَالُوا
 سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٥٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
 نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
 إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ

لَنَا وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

[سورة البقرة : ٢٨٥ - ٢٨٦] .

[AAMANA -R-RASUULU BI MAA UNZILA ILAIHI MIN RABBIHI WA -L-MU'UMINUUNA KULLUN AAMANA BI -L-LAHI WA MALAAIKATIHI WA KUTUBIHI WA RUSULIHI LAA NUFARRIQU BAINA AHADIN MIN RUSULIHI WA QAALUU SAMI'INAA WA ATA'ANAA GUFRAANAKA RABBANAA WA ILAIKA -L-MASEER* LAA YUKALLIFU -L-LAHU NAFSAN ILLA WUS'A'HAA LAHA MAA KASABAT WA ALAIHAA MAA -K-TASABAT RABBANAA LAA TU'AA'KHIDZ'NAA IN NASEENAA AW AKH'TA'ANAA RABBANAA WA LAA TAHMIL ALAINAA ISRAN KAMAA HAMALTAHU ALAA -L-LADZEENA MIN QABLINAA RABBANAA WA LAA TU'HAMMIL'NAA MAA LAA TAAQATA LANAA BIHI WA'AFU ANNAA WA -G-FIR LANAA WA -R-HAM'NAA ANTA MAULAANAA FANSURNAA ALAA -L-KAUMI -L-KAAFIREEN]. [Qur'aan: 2:285,286].

٤ - « بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنِّي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، فَإِنْ أَمْسَكَتَ نَفْسِي فَأَرْحَمَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَأَحْفَظْهَا، بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ ». [متفق عليه].

[BISMIKA RABBEE WADHA'ATU JANBEE, WA BIKA ARFAU'U, FA'IN AMSAKTA NAFSEE FARHAMHAA, WA IN

ARSALTAHAA FAHFADZHAA BI MAA TAHFADZ BIHI
IBAADAKA -S-SAALIHEEN].

« Mo fi ẹgbẹ mi lele ni oruko Iwo Oluwa mi, Iwo
Naa l'O si mu mi le gbe e dide, ti O ba gba ẹmi mi
[l'uju oorun] ke ẹ, ti O ba si tu u silẹ so ọ, pelu ohun
ti O maa N fi i so awon ẹru Re oluse-daadaa ». Bukhari
ati Muslim l'o gbe e jade.

« - ٥ اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا
وَمَحَاتُهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَهَا فَاعْفِرْ لَهَا. اللَّهُمَّ
إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ ». [رواه أحمد ومسلم].

[ALLAHUMMA ANTA KHALAQTA NAFSEE WA ANTA
TAWAFFAAHAA, LAKA MAMAATUHAA WA MAHYAAHAA,
IN AH'YAITAHAA FAHFADZHAA, WA IN AMATTAHAA
FAGFIR LAHAA. ALLAHUMMA INNEE AS'ALUKA -L-
AAFIYAH].

« Iwo Olọhun, dajudaju Iwo l'O da ẹmi mi, Iwo Naa
l'O si mu un lo, Iwo l'O ni oku ati aaye re, ti O ba
mu un maa be laaye so ọ, ti O ba si pa a se aforijin
fun un. Olọhun mo n toro alaafia lodọ Re ». Ahmad ati
Muslim l'o gbe e jade.

« - ٦ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ » [ثَلَاثَ مَرَاتٍ].
[رواه أبو داود والترمذي].

[ALLAHUMMA QINEE ADZAABAKA YAWMA TAB'ATHU
IBAADAK]; leṣemeta.

« Ọlọhun sọ mi nibi iya Rẹ ni ọjọ ti O gbe awọn ẹru Rẹ dide ». Abu-Daa'uud ati At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

۷- « بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا ». [متفق عليه].

[BISMIKA -L-LAHUMMA AMUUTU WA AHAYAA].

« Ni orukọ Iwọ Ọlọhun ni n o ku ni n o si maa sẹmi ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

۸- « سُبْحَانَ اللَّهِ [ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ] وَالْحَمْدُ لِلَّهِ [ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ] وَاللَّهُ أَكْبَرُ [أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ] ». [متفق عليه].

[SUBHAANA -L-LAAH "mẹtalelọgbọn" AL-HAMDU LI-L-LAAH "mẹtalelọgbọn" ALLAHU AKBAR "mẹtalelọgbọn"]. Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

۹- « اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ ». [رواه مسلم].

[ALLAHUMMA RABBA -S-SAMAAWAATI -S-SAB'I WA RABBA -L-ARSHI -L-ADZEEM, RABBANAA WA RABBA KULLI SHAIN IN, FAALIQA -L-HABBI WA -N-NAWAA, WA MUNZILA -T-TAWRAATI WA -L-INJEELI WA -L-FURQAAN, AUUDZU BIKA

MIN SHARRI KULLI SHAIN IN ANTA AAKHIDZUN
 BI'NAASIYATIHI. ALLAHUMMA ANTA -L-AWWALU FALAISA
 QABLAKA SHAIUN, WA ANTA -L-AAKHIRU FALAISA
 BA'ADAKA SHAIUN, WA ANTA -D-DZAAHIRU FALAISA
 FAWQAKA SHAIUN, WA ANTA -L-BAATINU FALAISA
 DUUNAKA SHAIUN. IQDHI ANNEE -D-DAINA WA A'G'NINEE
 MINA -L-FAQR].

« Iwọ Ọlọhun, Oluwa awọn sanma mejeeje, Ọba
 Alaga ọla titobi, Oluwa wa Oluwa gbogbo nnkan,
 Olumu eso ati koro hu jade, Olusọ Tawraata ati
 Injeela ati Al-Qur-aan kalẹ, mo n sadi Rẹ nibi aburu
 gbogbo nnkan ti o se wi pe O gba asoso rẹ mu,
 Ọlọhun, Iwọ ni Ẹni-Akọkọ kò si nnkan kan ti o
 siwaju Rẹ, Iwọ ni Ẹni-Igbeyin kò si nnkan kan ti yoo
 sẹku lẹyin Rẹ, Iwọ ni Ẹni ti O han kò si nnkan kan ti
 o han ju Ọ lọ, Iwọ ni Ẹni ti o pamọ kò si nnkan kan
 ti o pamọ ju Ọ lọ, ba mi san gbese mi ki O si rọ mi
 lọrọ kuro ninu osi ». Muslim l'o gbe e jade.

۱۰ - « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَّأَنَا، وَأَوَّأَنَا، فَكَمُّ

مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَّ ». [رواه مسلم].

[AL-HAMDU LI -L-LAHI -L-LADZEE AT'AMANAA WA
 SAQAANAA, WA KAFAANAA, WA AAWAANAA, FAKAM
 MIMMAN LAA KAAFIYA LAHU WA LAA MU'UWEE].

« Ọpẹ ni fun Ọlọhun ti O fun wa ni jije ati mimu, ti
 O si to wa, ti O si fun wa ni ibugbe, meloomeloo ni

eni ti kò ni eni ti yoo to o, ti kò si ni eni ti yoo fun un ni ibugbe ». Muslim l'o gbe e jade.

۱۱ - « اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَه، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا، أَوْ أَجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ ». [رواه أبو داود].

[ALLAHUMMA AALIMA -L-GAIBI WA -SH-SHAHAADATI FAATIRA -S-SAMAAWATI WA -L-ARDH, RABBA KULLI SHAIN IN WA MALEEKIHI, ASH'HADU AN LAA ILAAHA ILLA ANT, AUUDZU BIKA MIN SHARRI NAFSEE, WA MIN SHARRI -SH-SHAITAANI WA SHIRKIHI, WA AN AQTARIFA ALAA NAFSEE SUU'AN, AW AJURRAHU ILAA MUSLIM].

« Iwo Ọlọhun, Olumọ ikọkọ ati gbangba, Olupileḍa awọn sanma ati ile, Oluwa gbogbo nnkan ati Olowo wọn, mo jẹri pe kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọ, mo n sadi Re kuro nibi aburu ara mi, ati nibi aburu esu ati iseḅọ si Ọlọhun ti i maa n pe ni lọ sidi re -abi ati ete re-, ati kuro nibi ki n se ori ara mi ni aburu, tabi ki n fa a lọ ba Musulumí ». Abu-Daa'uud l'o gbe e jade.

12- Yoo ke **Suuratu Al-Sajdah**, ati **Suuratu Al-Mulk**.

۱۳ - « اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَالْحَاثُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً

إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي
 أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ». [متفق عليه].

[ALLAHUMMA ASLAMTU NAFSEE ILAIK, WA FAWWADHTU
 AMREE ILAIK, WA WAJJAHTU WAJHEE ILAIK, WA
 ALJA'ATU DZAHREE ILAIK, RAGBATAN WA RAHBATAN
 ILAIK, LAA MALJA'A WA LAA MANJAA MINKA ILLA ILAIK,
 AAMANTU BI KITAABIKA -L-LADZEE ANZALTA WA BI
 NABIYYIKA -L-LADZEE ARSALT].

« Iwọ Ọlọhun, mo fi ẹmi mi le Ọ lọwọ, mo si fi ọrọ
 mi ti si ọdọ Rẹ, mo si d'ọju mi kọ ọdọ Rẹ, mo si fi
 ẹyin mi ti si ọdọ Rẹ, ni ti ibeṛu Rẹ, ati ni ti sise
 ojukokoro si ọdọ Rẹ, kò si ibusasi kan tabi
 ibuforipamọsi kan kuro lọdọ Rẹ yatọ si ọdọ Rẹ, mo
 gba tira Rẹ ti O sọ kalẹ gbọ, mo si gba Anabi Rẹ ti O
 ran nişẹ gbọ ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA YIRA-PADA LORU

« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
 بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ». [رواه الحاكم].

[LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU -L-WAAHIDU -L-QAHHAAR,
 RABBU -S-SAMAAWAATI WA -L-ARDHI WA MA
 BAINAHUMAA -L-AZEEZU -L-GAFFAAR].

« Kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si
 Ọlọhun Ọba Ọkan-soso Olubori, Oluwa gbogbo

awon sanma ati ile ati ohun ti n be laarin mejeeji Alagbara "t'o bori gbogbo nnkan" Alaforijin ». Al-Hakim l'o gbe e jade.

ADUA IBERU OJU-OORUN, ATI TI ENI TI BA N BE NINU ADANWO DIDAGBE

« أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ،
وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَخْضَرُونَ ». [رواه أبو داود].

[AUUDZU BI KALIMAATI -L-LAHI -T-TAMMAATI MIN
GADHABIHI WA IQAABIHI, WA SHARRI IBAADIHI, WA MIN
HAMAZAATI -SH-SHAYAATEENI WA AN YAHDHURUUN].

« Mo n fi awon gbolohun Ololahun ti o pe wa isadi
nibi ibinu Re ati iya Re, ati aburu awon eru Re, ati
nibi awon iroyiroyi awon esu, ati kuro nibi ki won o
wa si odomi ». Abu-Daa'uud l'o gbe e jade.

OHUN TI ENI TI O BA LALA RI ABURU NI OJU-OORUN YOO SE NIGBA TI O BA JI

- 1- Oluwaare yoo tu ategun ti ko ni ito ninu si apa
alaafia re lemeta. Muslim l'o gbe e jade.
- 2- Yoo fi Ololahun wa isadi kuro lodomi esu ati aburu
ohun ti o ri ni oju-oorun lemeta. Muslim l'o gbe e jade.
- 3- Ki o ma se so ohun ti o ri ni oju-oorun re yii fun
enikan kan rara. Muslim l'o gbe e jade.
- 4- Ki o yi egbe pada si apa miiran yatso si eyi ti o wa
lori re [nigba ti o lala naa]. Muslim l'o gbe e jade.

5- Ki o dide kirun -Naafila- ti o ba wu u lati se beę.
Muslim l'o gbe e jade.

ADUA IDURO [AL-QUNUUT] TI IRUN WITR

١ - « اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ،
وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أُعْطِيتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا
قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَدُلُّ مَنْ
وَأَلَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ». [الحرمه

أصحاب السنن الأربعة والبيهقي وغيرهم].

[ALLAHUMMA -H-DINEE FEEMAN HADAIT, WA AAFINEE
FEEMAN AFAIT, WA TAWALLANEE FEEMAN TAWALLAIT,
WA BAARIK LEE FIMAA A'ATAIT, WA QINEE SHARRA MAA
QADAIT, FA'INNAKA TAQDEE WA LA YUQDAA ALAIK,
INNAHU LA YADZILLU MAN WAALAIT, WA LA YAIZZU
MAN AADAIT, TABAARAKTA RABBANAA WA TA'AALAIT].

« Olohun fi ona mo mi pelu awon ti O fi ona mo, fun
mi ni alaafia pelu awon ti O fun lalaafia, ba mi
mojuto oro mi pelu awon ti O se amojuto oro won,
ba mi fi oore si ohun ti O fun mi, so mi ninu aburu
ohun ti O se ni idajo, tori pe dajudaju Iwo l'O maa n
se idajo [fun awon eru Re] enikan ki i se idajo fun O,
dajudaju eni ti O fe ko ni i te, ati pe agbega ko si fun
eni ti O ko fe, ibukun ni fun O, giga si ni fun O ».
Awon oni-tira Sunna merererin ati Al-Baihaqqiyyu l'o gbe e jade.

٢- « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عِقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَنْتَ عَلَى نَفْسِكَ ». [رواه احمد واصحاب السنن الأربعة].

[ALLAHUMMA INNEE AUUDZU BIRIDHAAKA MIN SAKHATIK, WA BIMU'AAFATIKA MIN UQUUBATIK, WA AUUDZU BIKA MINK, LA UH'SEE THANAA'AN ALAIK, ANTA KAMAA ATH'NAITA ALAA NAFSIK].

« Iwo Ọlọhun, mo n fi iyonu Re wa isadi nibi ibinu Re, mo si n fi amojukuro Re wa isadi kuro nibi iya Re, mo si n fi Ọ wa isadi lodo ara Re, ko si bi mo ti se le yin Ọ ti o le da gẹgẹ bi O ti se yin ara Re ».
Ahmad ati awon oni-tira Sunna merererin l'o gbe e jade.

٣- « اللَّهُمَّ يَاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَخْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقٌ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَخْضَعُ لَكَ، وَنَخْلَعُ مَنْ يَكْفُرُكَ ». [أخرجه البيهقي].

[ALLAHUMMA IYYAACA NA'ABUD, WA LAKA NUSALLI WA NASJUD, WA ILAIKA NAS'AA WA NAKHFIDH, NARJUJ RAHMATAK, WA NAKH'SHA ADZAABAK, INNA ADZAABAKA BI L-KAAFIREENA MULHAQ. ALLAHUMMA INNA NASTA'I'EENUK, WA NASTAGFIRUK, WA NUTH'NEE ALAIKA

-L-KHAIR, WA LAA NAKFURUK, WA NU'UMINU BIK, WA NAKHDHA'U LAK, WA NAKHLA'U MAN YAKFURUK].

« Qlqhun, Iwo nikan ni a n josin fun, Iwo ni a n kirun fun, Iwo Naa ni a n si fi ori kanle fun, odo Re ni a da oju ko ti a si n yara lo, a n rankan ike Re, a si n paya iya Re, dajudaju ohun ti yoo ba awon alaigbagbo ni iya Re i se, Iwo Qlqhun, a n wa atileyin Re ati aforijin Re, a n si fi eyin rere fun Q, a ko ni i se aimoore si Q, a si gba Q gbọ lododo, a si n teriba fun Q, a si n pa gbogbo eni ti o se aigbagbo si Q ti ». Al-Baihaqqiyyu l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO SE LEYIN TI O BA SALAMA NI IRUN WITR

«Eniyan o so pe:

« سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ »

[SUBHAANA -L-MALIKI -L-QUDDUUS] lemeṣeta, « Mimọ ni fun Qlqhun Qba Oni-mimọ »; yoo si gbe ohun re soke nigba ti yoo ba wi eleṣeṣeta pelu fifa a gun, yoo si fi kun un pe:

« رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ »

[RABBI -L-MALAAIKATI WA -R-RUUH].

« Oluwa awon Malaika ati Jibreel ». An-Nassa'i l'o gbe e jade.

ADUA AIBALE-OKAN ATI IBANUJE

۱- « اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِي حُكْمِكَ، عَدْلٌ فِي قَضَائِكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْذَنْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَثَوْرَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي ». [رواه احمد].

[ALLAHUMMA INNEE ABDUK, IBNU ABDIK, IBNU AMATIK, NAASIYATEE BI YADIK, MAADHIN FIYYA HUKMUK, ADLUN FIYYA QADHAA'UK, AS'ALUKA BI KULLI S'MIN HUWA LAKA SAMMAITA BIHI NAFSAK, AW ANZALTAHU FEE KITAABIK, AW ALLAMTAHU AHADAN MIN KHALQIK, AWI S'TA'ATHARTA BIHI FEE ILMI -L-GAIBI INDAK, AN TAJ'ALA -L-QUR'AANA -L-ADZEEMA RABEE'A QALBEE, WA NUURA SADREE, WA JALAA'A HUZNEE, WA DZAHAABA HAMMEE].

« Iwo Ọlọhun, dajudaju ẹru Rẹ ni mi, ọmọ ẹru Rẹ lọkunrin, ọmọ ẹru Rẹ lobinrin, asoso mi n bẹ ni ọwo Rẹ, idajọ Rẹ n sẹ le mi lori, akọọlẹ Rẹ si se dogba lori mi, mo n bẹ Ọ pẹlu gbogbo orukọ ti o jẹ ti Ẹ, eyi ti O sọ ara Rẹ, tabi eyi ti O sọ kalẹ sinu tira Rẹ, tabi eyi ti O fi mọ ẹnikan ninu awọn ẹda Rẹ, tabi eyi ti o se wi pe Iwo nikan l'O mọ ọn ninu imọ ikọkọ ti o wa

lọdọ Rẹ, pe ki O se Al-Qur'aan alaponle ni itutu okan mi, ati imọlẹ igba-aya mi, ati isipaya ibanujẹ mi, ati olumu aibalẹ-ọkan mi lọ ». Ahmad l'o gbe e jade.

٢- « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْحَبْنِ، وَضَلَعِ الدِّينِ وَغَلْبَةِ الرَّجَالِ ». [رواه البخاري].

[ALLAHUMMA INNEE AUUDZU BIKA MINA -L-HAMMI WA -L-HAZAN, WA -L-AJZI WA -L-KASAL, WA -L-BUKH'LI WA -L-JUB'N, WA DHALA'I -D-DAINI WA GALABATI -R-RIJAAL].

« Iwo Ọlọhun, mo sadi Rẹ nibi aibalẹ-ọkan ati ibanujẹ, ati ikaare, ati oraju, ati ahun, ati ọlẹ, ati ẹru gbese, ati kuro nibi ki awon eniyan o bori mi ». Bukhari l'o gbe e jade.

ADUA IDAAMU

١- « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ». [متفق عليه].

[LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU -L-ADZEEMU -L-HALEEM, LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU RABBU -L-ARSHI -L-ADZEEM, LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU RABBU -S-SAMAAWATI WA RABBU ARDHI WA RABBU -L-ARSHI -L-KAREEM].

« Kò si oḅa kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọlọhun Ọba-Titobi Alafarada, kò si oḅa kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọlọhun Alaga ọla ti O

tobi, kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọlọhun Ọba awọn sanma ati ilẹ Ọba Alaga ọla Alapọnle ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

۲- « اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ». [رواه أحمد وأبو داود].

[ALLAHUMMA RAHMATAKA ARJUU FALAA TAKILNEE ILAA NAFSEE TARFATA AIN, WA ASLIH LEE SHA'ANEE KULLAH, LAA ILAAHA ILLA ANT].

« Iwọ Ọlọhun, ikẹ Rẹ ni mo n rankan, ma se da mi dara mi ni odiwọn iseju akan, ba mi tun gbogbo ọrọ mi se, kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọ ». Ahmad ati Abu-Daa'uud l'o gbe e jade.

۳- « لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ». [رواه الترمذي].

[LAA ILAAHA ILLA ANTA SUBHAANAKA INNEE KUNTU MINA -DZA-DZAALIMEEN].

« Kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọ, mimọ ni fun Ọ, dajudaju emi jẹ ọkan ninu awọn alabosi ». At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

۴- « اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ». [رواه أبو داود].

[ALLAHU ALLAHU RABBE LAA USHRIKU BIHI SHAI'AN].

« Ọlọhun ni Oluwa mi, n kò ni i fi nnkan kan se orogun fun Un ». Abu-Daa'uud l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA
FEE PADE OTA RE TABI ENI TI IJOBA N BE
LOWO RE

١ - « اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ ». [رواه أبو داود].

[ALLAHUMMA INNAA NAJ'ALUKA FEE NUHUURIHIM WA NA'UUDZU BIKA MIN SHURUURIHIM].

« Iwo Ọlọhun, a n fi Ọ si ookan aya won -a n be Ọ pe ki O ba ni di igba-aya won, ma je ki won o le de ọdọ wa rara-, a si n sadi Re nibi awon aburu won ». Abu-Daa'uud l'o gbe e jade.

٢ - « اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضِدِي، وَأَنْتَ نَصِيرِي، بِكَ أَجُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أَقَاتِلُ ». [رواه أبو داود والترمذي].

[ALLAHUMMA ANTA ADUDEE, WA ANTA NASEEREE, BIKA AJUUL, WA BIKA ASUUL, WA BIKA UQAATIL].

« Iwo Ọlọhun ni Alafeyinti mi, Iwo ni Alaranse mi, Iwo ni n o fi maa ti ete ọta danu, Iwo ni n o si fi bori won, Iwo ni n o fi maa ba won ja ». Abu-Daa'uud ati At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

٣ - « حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ». [رواه البخاري].

[ASBUNAA -L-LAHU WA NI'IMA -L-WAKEEL].

« Ọlọhun to wa, O si dara pupo ni Alafeyinti ». Bukhari l'o gbe e jade.

ADUA ENI TI N BERU ABOSI ENI TI -
AGBARA- IJOBA N BE LOWO RE

١- « اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ [فَلَان] بِنِ [فَلَان] وَأَحْزَابِهِ مِنْ خَلَاتِقِكَ، أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ يَطْعَنِي، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ تَنَازُؤُكَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ». [رواه البخاري في الأدب المفرد].

[ALLAHUMMA RABBA -S-SAMAAWAATI -S-SAB'I, WA RABBA -L-ARSHI -L-ADZEEM, KUN LEE JAARAN MIN "{lagbaja} BNI {lakasegbe}", WA AH'ZAABIHI MIN KHALAA'IQIK, AN YAFRUTA ALAYYA AHADUN MINHUM AW YATGAA, AZZA JAARUK, WA JALLA THANAA'UK, WA LAA ILAAHA ILLA ANT].

« Iwo Ọlọhun, Ọba awọn sanma mejeeje, Ọba Alaga ọla titobi, je Oluranlwowo fun mi lori lagbaja omo lagbaja, ati awọn ijo re ninu awọn eru Re, ma je ki enikan won o yara se mi laburu tabi ki o se agbere "le mi lori", eni ti o ba toro atileyin Re yoo leke -yoo di alagbara-, eyin Re si gbọn-un-gbọn, ko si o ba kan ti o to lati fi ododo josin fun yatọ si Ọ ».

٢- « اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَعَزُّ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيعًا، اللَّهُ أَعَزُّ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ، أَعُوذُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، الْمُمْسِكِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ أَنْ يَقَعْنَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ [فَلَان]،

وَجُسُودِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ، مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ، اللَّهُمَّ كُنْ لِي
جَارًا مِنْ شَرِّهِمْ، جَلَّ تَنَاؤُكَ وَعَزَّ جَارُكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَلَا
إِلَهَ غَيْرُكَ» (ثلاث مرات). [رواه البخاري في الأدب المفرد].

[ALLAHU AKBAR, ALLAHU A'AZZU MIN KHALQIHI
JAMEE'AN, ALLAHU A'AZZU MIMMAA AKHAAFU WA
AHDZAR, AUUDZU BI -L-LAHI -L-LADZEE LAA ILAAHA ILLA
HUWA, AL-MUMSIKI -S-SAMAAWATI -S-SAB'I AN
YAQA'ANA ALAA -L-ARDHI ILLA BI-IDZNIHI, MIN SHARRI
ABDIKA [lagbaja], WA JUNUUDIHI WA ATBAA'IHI WA
ASH'YAA'IHI, MINA -L-JINNI WA -L-INS, ALLAHUMMA KUN
LEE JAARAN MIN SHARRIHIM, JALLA THANAA'UKA WA
AZZA JAARUK, WA TABAARAKA -S'MUK, WA LAA ILAAHA
GAIRUK]; leḡemeta.

« Ọlọhun l'O tobi ju, Ọlọhun ga ju gbogbo awon ẹda
Re lo, Ọlọhun ga ju ohun ti mo n beru ti mo si n sora
fun lo, mo sadi Ọlọhun ti ko si o ba miiran ti o to lati
fi ododo josin fun yatọ si I, Oba ti o di sanma
mejeeje mu, ti o se pe nnkan kan ko l'o mu un ma ja
le ile lori yatọ si ase Re, "mo sadi Re" nibi aburu eru
Re [lagbaja], ati awon omọ-ogun re, ati awon omọ-
leyin re, ati awon ẹlẹgbẹ re, ninu awon alujannu ati
awon eniyan, Iwo Ọlọhun je Oluranlowo fun mi
kuro ninu aburu won, eni ba toro atileyin Re yoo
leke - yoo di alagbara-, eyin Re si gbọn-un-gbọn,

ibukun ni fun orukọ Rẹ, ati pe kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọ ».

ADUA LORI OTA ENI

« اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ، اهْزِمِ الْأَحْزَابَ،
اللَّهُمَّ اهْزِمْنَهُمْ وَزَلِّزْلَهُمْ ». [رواه مسلم].

[ALLAHUMMA MUNZILA -L-KITAAB, SAREE'A -L-HISAAB, IHZIMI -L-AHZAAB, ALLAHUMMA -H-ZIMHUM WA ZALZILHUM].

« Iwọ Ọlọhun, Olusọ-awọn-tira-kalẹ, Ayara-se-isiro, [ba mi] sẹgun awọn ijọ ọta wọnyi, Ọlọhun [ba mi] sẹgun wọn, ki O si mi wọn logbologbo ». Muslim l'o gbe e jade.

OHUN TI ENI TI BA N PAYA AWON KAN YOO WI

« اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ ». [رواه مسلم].

[ALLAHUMMA 'K'FINEEHIM BIMAA SHI'ITA].

« Iwọ Ọlọhun, fi ohun ti O ba fẹ gba mi kuro lọwọ wọn ». Muslim l'o gbe e jade.

ADUA ENI TI IYEMEJI BA N SE IGBAGBO RE

1- « Ki oluwaare o sadi Ọlọhun Ọba ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

2- « Ki o pa iyemeji rẹ ti lori ohun ti n se iyemeji le lori ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

3- « Ki oluwaare o maa so pe:

« آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ».

[AAMANTU BI-L-LAHI WA RUSULIHI].

« Mo gba Olohun ati awon ojise Re gbọ lododo ».
[Muslim l'o gbe e jade].

4- « Ki o maa ka orọ Olohun Oba t'O ga ti o lo bayii pe:

« هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ».
[سورة الحديد: (۳). رواه أبو داود].

[HUWA -L-AWWALU WA -L-AAKHIRU WA -D-DZAAHIRU WA -L-BAATINU WA HUWA BI KULLI SHAIN IN ALEEM].

« Oun "Olohun" ni Eni-akoko, ati Eni-igbeyin, ati Oluhan, ati Olupamo, ati pe Oun Olumo nipa gbogbo nnkan ». [Al-Qur'aan 57:3]. Abu-Daa'uud l'o gbe e jade.

ADUA ATIRI GBESE SAN

۱ - « اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ

عَمَّنْ سِوَاكَ ». [رواه الترمذي].

[ALLAHUMMA AKFINEE BI HALAALIKA AN HARAAMIKA, WA AGNINEE BI FADHLIKA ANMAN SIWAAK].

« Iwo Olohun, to mi pelu ohun ti O se ni eto kuro nidi ohun ti O se leewo, si ro mi loro pelu olo Re kuro ni odo elomiran yatọ si O ». At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

٢- « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ،
وَالْبُخْلِ وَالْحُبْنِ، وَضَلَعِ الدِّينِ وَغَلْبَةِ الرَّجَالِ ». [رواه البخاري].

[ALLAHUMMA INNEE AUUDZU BIKA MINA -L-HAMMI WA -L-
HAZAN, WA -L-AJ'ZI WA -L-KASAL, WA -L-BUKHLI WA -L-
JUB'N, WA DAL'I -D-DAINI WA GALABATI -R-RIJAAL].

« Iwo Ọlọhun, mo n sadi Re nibi aibale-ọkan ati ibanuje, ati ikaare ati oraju, ati ahun, ati oḷe, ati eru gbese, ati nibi ki gbese o bori mi, ati nibi ki awon eniyan o bori mi ». Bukhari l'o gbe e jade.

**ADUA TI ENI TI N SE IROYIROYI NINU
IRUN ATI NINU KEWU KIKA LORI IRUN
YOO SE**

'Oluwaare ọoo sọ pe':

« أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ». [رواه مسلم].

[AUUDZU BI-L-LAHI MINA -SH-SHAI TAANI -R-RAJEEM],

« “Mo n fi Ọlọhun wa isadi kuro ni ọdọ esu ẹni-egbe”; yoo si maa fe atekun ti o ni itọ ninu si apa alaafia re lemeta ». Muslim l'o gbe e jade.

**ADUA TI ENI TI NNKAN KAN BA SORO FUN
YOO SE**

« اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا ». [رواه ابن حبان في صحيحه].

[ALLAHUMMA LAA SAHLAN ILLA MAA JA'AL'TAHU SAHLAN WA ANTA TAJ'ALU -L-HAZNA IDZAA SHI'TA SAHLAN].

« Iwo Ọlọhun, kò si ohun t'ọ rọrun afi ohun ti O ba se ni irọrun, Iwo A si maa sọ ohun ti o soro di irọrun ti O ba fẹ ». Ibn Hibbaan l'ọ gbe e jade.

OHUN TI ENI TI O BA DESE KAN YOO WI ATI OHUN TI YOO SE

Ojise Ọlọhun “ike ati ọla Ọlọhun k'ọ maa ba a” sọ pe:

« ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور، ثم يقوم فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ».

« Eru Ọlọhun kan kò ni i deşe kan, ki o wa se aluwala daadaa, ki o si dide ki raka meji, leyin naa ki o tọrọ aforijin ọdọ Ọlọhun afi ki Ọlọhun O se aforijin fun un ». Abu-Daa'uud ati At-Tirmidziyyu l'ọ gbe e jade.

ADUA ATILE ESU ATI IROYIROYI RE JINNA

- 1- Fifi Ọlọhun wa isadi kuro ni ọdọ esu. [Abu-Daa'uud ati At-Tirmidziyyu l'ọ gbe e jade].
- 2- Irun pipe. [Bukhari ati Muslim l'ọ gbe e jade].
- 3- Sise iranti Ọlọhun “Al-dzikh”, ati kika Al-Qur'aan.

ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI NNKAN
TI KO FE BA SELE SI I, TABI NIGBA TI APA
RE KO BA KA ORO ARA RE MO

« قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ ». [رواه مسلم].

[QADARU -L-LAHI WA MAA SHAA'A FA'AL].

« Eleyii ni akọọlẹ Ọlọhun, ohun ti O si fẹ l'O se ».
[Muslim l'o gbe e jade].

BIBA ENI TI WON BIMỌ FUN YO ATI BI
YOO TI DAHUN

Eniyan yoo sọ fun un bayii pe:

« بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ لَكَ، وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ،
وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، وَرَزَقْتَ بَرَّهُ ».

[BAARAKA -L-LAHU LAKA FEE -L-MAWUUBI LAK, WA
SHAKARTA -L-WAAHIB, WA BALAGA ASHUDDAH, WA
RUZIQTA BIRRAH].

« Ọlọhun O fun ọ loore ẹbun ti O bun ọ, yoo si jẹ ki
o le dupe fun Ẹni ti o bun ọ leḅun naa [Ọlọhun], yoo
si mu un dagba, yoo si fi igbọrọ si ọ lenu rẹ rọ ọ
lọrọ».

Ẹni ti won bimọ fun naa yoo si dahun pe:

« بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، وَرَزَقَكَ اللَّهُ
مِثْلَهُ، وَأَجْزَلَ ثَوَابَكَ ».

[BAARAKA -L-LAHU LAKA WA BAARAKA ALAIK, WA JAZAAKA -L-LAHU KHAIRAN, WA RAZAQAKA -L-LAHU MITH'LAH, WA AJZALA THAWAABAK].

« Qlqhun O se oore Rẹ fun ọ, yoo si se e le ọ lori, yoo san ọ lẹsan rere, yoo si fi iru rẹ ta ọ lọrẹ, yoo si jẹ ki ẹsan rẹ o pọ ».

OHUN TI A O FI MAA WA ISO FUN AWON OMODE

Ojise Qlqhun 'ike ati ọla Qlqhun k'o maa ba a' a maa wa iso fun Hasan ati Husain bayii pe:

« أُعِيدُكُمْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَأَمَّةٍ ». [رواه البخاري].

[U'EE'DZU KUMAA BI KALIMAATI -L-LAHI -T-TAAMMATI MI KULLI SHAITAANIN WA HAAMMAH, WA MI KULLI AININ LAAMMAH].

« Mo n fi awon gbolohun Qlqhun ti o pe wa isadi fun yin kuro ni ọdọ gbogbo esu ati gbogbo ẹranko tabi kokoro oloro [ati eyi ti ki i se oloro], ati kuro nibi gbogbo oju-koju ». Bukhari l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO SE FUN ALAARE NIGBA TI O BA BE E WO

۱ - « لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ». [رواه البخاري].

[LAA BA'ASA TAHUURUN IN SHAA'A ALLAH].

« O kò ni i ri aburu kankan, amodi rẹ yii yoo si jẹ afonimo kuro ninu awon ẹsẹ ati awon asise ti Olohun ba fẹ ». Bukhari l'o gbe e jade.

2- Eniyan yoo wi awon gbolohun ti n bo yii leemeje:

« أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ ». [رواه ابو

داود والترمذي].

[AS'ALU -L-LAHA -L-ADZEEMA RABBA -L-ARSHI -L-ADZEEMI AN YASHFIYAK].

« Mo n be Olohun Oba t'O ga Oba Alaga o la titobi pe ki O wo o san ». Abu-Daa'uud ati At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

OLA TIN BE FUN SISE ABEWO ALAARE

Ojise Olohun "ike ati o la Olohun k'o maa ba a" so pe:

« إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الحنة حتى يجلس »

فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه سبعون

ألف ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف

ملك حتى يصبح. [رواه أحمد والترمذي وابن ماجه].

« Nigba ti eniyan ba se abewo omọ-iyá rẹ Musulumi

ti n se aare, ori oju-ona Al-Janna -ogba idera- ni yoo

wa titi yoo fi jokoo "loḍo rẹ", nigba ti o ba si jokoo

"loḍo rẹ" tan aanu Olohun yoo bo o, ati pe ti o ba se

pe aaro kutu ni o se abewo yii si, awon Malaika

egberun lona aadarin yoo maa sadua fun un titi ti

yoo fi leḷe, beḷe ni ti o ba je pe irḷe ni o se abewo naa si awon Malaika egberun lona aadorin yoo maa se adua fun un titi yoo fi ji lowuro ». Ahmad ati At-Tirmidziyyu ati Ibn Maajah l'o gbe e jade.

ADUA ALAARE TI KO SI IRETI ATISEMI FUN UN MO

۱- « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى ».

[متفق عليه].

[ALLAHUMMA -G-FIR LEE WA -R-HAMNEE WA ALHIQNEE BI-R-RAFEEQI -L-A'ALAA].

« Iwo Olohun, dari jin mi, ke mi, fi mi pelu ijo awon ti won ga ju ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

2- Nigba ti asiko iku Anabi wa "ike ati ola Olohun k'o maa ba a" de o bere si ni ti owore mejeeji bo inu omi o si n fi owore mejeeji naa pa oju re; o si n so bayii pe:

« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكْرَاتٍ ». [رواه البخاري].

[LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU INNA LILMAWTI LASAKARAAT].

« Ko si o ba kan ti o to lati fi ododo josin fun yatso si Olohun Oba; dajudaju awon daamudaabo n be fun iku ». Bukhari l'o gbe e jade.

٣- « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ». [رواه الترمذي وابن ماجه].

[LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WA -L-LAHU AKBAR, LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WAHDAH, LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WAHDAHU LAA SHAREEKA LAH, LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU LAHU -L-MULKU WA LAHU -L-HAMD, LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WA LAA HAWLA WA LAA QUWWATA ILLA BI -L-LAH].

« Kò si ọba kan ti o tọ lati sin lododo yatọ si Ọlọhun Ọba, Ọlọhun l’O tobi ju, kò si ọba kan ti o tọ lati sin lododo yatọ si Ọlọhun nikan soso, kò si ọba kan ti o tọ lati sin lododo yatọ si Ọlọhun nikan soso, kò si orogun fun Un, kò si ọba kan ti o tọ lati sin lododo yatọ si Ọlọhun, tiẸ ni gbogbo ọla ati gbogbo ọpẹ i se, kò si ọba kan ti o tọ lati sin lododo yatọ si Ọlọhun, kò si ọgbọn kan, bẹẹ ni kò si agbara kan lẹyin Ọlọhun Ọba ». At-Tirmidziyyu ati Ibn Maajah l’o gbe e jade.

OHUN TI A O NU ENI TI N POKAAKU

Ojise Ọlọhun “ike ati ọla Ọlọhun k’o maa ba a” sọ pe:

« من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ». [رواه أبو داود].

« Ẹnikẹni ti ọrọ t’o sọ gbeyin -laye- ba jẹ [LAA ILAAHA ILLA -L-LAH] “kò si ọba kan ti o tọ lati sin

lododo yatọ si Ọlọhun Ọba” oluwaare yoo wọ Al-Janna -ogba idera- ». Abu-Daa'uud l'o gbe e jade.

ADUA ENI TI ADANWO SE

« إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجْرِنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا ». [رواه مسلم].

[INNAA LI-L-LAHI WA INNAA ILAIHI RAAJI'UUN, ALLAHUMMA 'JURNEE FEE MUSEEBATEE WA AKHLUF LEE KHAIRAN MINHAA].

« Dajudaju ti Ọlọhun ni awa i se, ati pe ọdọ Rẹ ni a o pada si, Ọlọhun san mi ọsan -suuru mi ati idaamu mi lori- adanwo ti o se mi, wa fi ohun ti o loore ju u lo jaarọ rẹ fun mi ». Muslim l'o gbe e jade.

ADUA TI A O SE NIGBA TI A BAN PA OJU

OKU DE

« اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي [***] وَاَرْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقْبِهِ فِي الْعَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَاْفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَزَّ لَهُ فِيهِ ». [رواه مسلم].

[ALLAHUMMA -G-FIR LI [***] WA -R-FA'A DARAJATAHU FEE -L-MAHDIYYEEN, WA KH'LUFHU FEE AQIBIHI FEE -L-GAABIREEN, WA -G-FIR LANAA WA LAHU YAA RABBA -L-AALAAMEEN, WA -F-SAH LAHU FEE QABRIH, WA NAWWIR LAHU FEEHI].

« Iwọ Ọlọhun dari jin “lagbaja”, se agbega ipo re laarin awon eni ti o mona, se arole fun un lori awon ti won seku ninu awon aromodomo re, se aforijin fun awa ati oun, Iwọ Ọba gbogbo eḍa, gba a laye ninu saare re, si tan imole si inu re fun un ». Muslim l'o gbe e jade.

ADUA TI A O SE FUN OKU NIGBA TI A BAN KIRUN SI I LARA

۱- « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَتَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا تَقِيَتِ الثُّوبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدَلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ ». [رواه مسلم].

[ALLAHUMMA -G-FIR LAHU, WA 'R'HAMHU, WA'AFIHI, WA'AFU ANHU, WA AKRIM NUZULAHU, WA WASSI'I MUDKHALAHU, WA -G-SILHU BI-L-MAA'I WA -TH-THALJI WA-L-BARAD, WA NAQQIHI MINA -L-KHATAAYAA, KAMAA NAQQAITA -TH-THAWBA -L-ABYADHA MINA -D-DANAS, WA ABDILHU DAARAN KHAIRAN MIN DAARIHI, WA AHLAN KHAIRAN MIN AHLIHI, WA ZAWJAN KHAIRAN MIN ZAWJIHI, WA ADKHILHU -L-JANNATA, WA A'IDZHU MIN ADZAABI -L-QABR, WA ADZAABI -N-NAR].

« Iwọ Ọlọhun fi ori jin in, kẹ ẹ, la a “kuro ninu adanwo”, se amojukuro fun un, se aponle ibusokalesi rẹ, fẹ ibi ti a o gbe e wọ, wẹ ẹ pẹlu omi ati omi yinyin ati omi ojo, fọ ọ mọ kuro ninu awọn asise re gẹgẹ bi O ti se mọ asọ funfun kuro ninu idoti, fi ile miiran ti o dara ju ile rẹ lọ jaarọ fun un, ati ẹbi ti o dara ju ẹbi rẹ lọ, ati iyawo ti o dara ju iyawo rẹ lọ, mu un wọ Al-Janna -ogba idera-, sọ ọ nibi iya saare ati iya ina ». Muslim l’o gbe e jade.

۲- « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَيَّ الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَيَّ الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ ». [رواه أحمد وابن ماجه].

[ALLAHUMMA -G’FIR LI-HAYYINAA, WA MAYYITINAA, WA SHAA’HIDINAA, WA GAA’IBINAA, WA SAGEERINAA, WA KABEERINAA, WA DZAKARINAA, WA UNTHAANAA, ALLAHUMMA MAN AH’YAITAHU MINNAA FAHAYYIHI ALAA -L-ISLAM, WA MAN TAWAFFAITAHU MINNAA FATAWAFFAHU ALAA -L-I’IMAAN, ALLAHUMMA LAA TAHRIMNAA AJRAHU, WA LAA TUDHILLANAA BA’ADAH].

« Iwọ Ọlọhun, dari jin abemi wa ati oku wa, ẹni ti n bẹ nibi ninu wa, ati ẹni ti kò si nibi, ọmọde wa ati agba wa, ọkunrin wa ati obinrin wa, Iwọ Ọlọhun, gbogbo ẹni ti O ba mu maa bẹ ni aaye ninu wa, jẹ ki

o maa sẹmi lori Islam, gbogbo ẹni ti O ba si gba ẹmi re ninu wa, gba ẹmi re lori igbagbo-ododo "Imaani", Iwo Olohun ma se dun wa ni laada re, ma si se si wa lona leyin re ». Ahmad ati Ibn Maajah l'o gbe e jade.

۳- « اللَّهُمَّ إِنَّ [فلاناً بن فلان] فِي ذِمَّتِكَ، وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَهِيَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، فَاعْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ». [رواه أبو داود وابن ماجة].

[ALLAHUMMA INNA [lagbaja] IBNA [tamedo] FEE DZIMMATIKA, WA HABLI JIWAARIK, FAQIHI MIN FITNATI -L-QABR, WA MIN ADZAABI -N-NAAR, FA ANTA AHLU -L-WAFAA'I WA -L-HAQQ, FA-G-FIR LAHU WARHAMHU INNAKA ANTA -L-GAFUURU -R-RAHEEM].

« Iwo Olohun, dajudaju lagbaja omọ lagbaja ti wa ni abe aabo -ati ifinilayabale- Re bayii, o si ti wa ninu isọ Re pelu, so o nibi amiwo saare ati iya ina, Iwo l'O ni pipe adehun ati ododo, tori naa dari jin in, ki O si ke e, dajudaju Iwo ni Alaforijin Alaaanu ». Abu-Daa'uud ati Ibn Maajah l'o gbe e jade.

۴- « اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ أُمَّتِكَ احْتِجَّ إِلَيَّ رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنِ عَذَابِهِ، إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَرِّدْ فِي حَسَنَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ ». [أخرجه الحاكم].

[ALLAHUMMA ABDUKA WA BNU AMATIKA IHTAAJA ILAA RAHMATIK, WA ANTA GANIYYUN AN ADZAABIHI, IN KAANA MUHSINAN FAZID FEE HASANAATIHI, WA IN KAANA MUSEE'AN FATAJAAWAZ ANHU].

« Iwo Ọlọhun, ẹru Rẹ ti o jẹ ọmọ ẹru Rẹ yii n bukata aanu Rẹ, Iwo si jẹ Ẹni ti O rọrọ kuro nibi jije ẹ niya, ti o ba jẹ wi pe oluse-rere ni se alekun rere rẹ, ti o ba si jẹ wi pe alaidaa ni se amojukuro fun un ». Al-Haakim l'o gbe e jade.

ADUA TI A O SE FUN OKU TI O BA JE OMODE

۱ - « اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ». [رواه مالك وغيره].

[ALLAHUMMA A'IDZHU MI ADZAABI -L-QABR].

« Iwo Ọlọhun, sọ ọ nibi iya saare ». Maalik ati awon miiran l'o gbe e jade.

O si dara ti eniyan ba si se adua fun un bayii pe:

« اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا وَذُخْرًا لِدِينِهِ، وَشَفِيعًا مُجَابًا، اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أَجُورَهُمَا، وَالْحَقُّهُ بِصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي كِفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ، وَأَبْدَلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأَسْلَافِنَا، وَأَفْرَاطِنَا، وَمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيمَانِ ».

[ALLAHUMMA -J-AL'HU FURATAN WA DZUKHURAN LI WALIDAIHI, WA SHAFEE'AN MAJAABAN, ALLAHUMMA-TH-THAQQIL BIHI MAWAAZINAHUMAA, WA A'ADZIM BIHI UJUURAHUMAA, WA ALHIQHU BI SAALIHI -L-MU'UMININA, WA J'ALHU FEE KAFAALATI IBRAHEEMA, WA QIHI BI RAHMATIKA ADZAABA -L-JAHEEM WA ABDILHU DAARAN KHAIRAN MIN DAARIHI, WA AHLAN KHAIRAN MIN AHLIHI, ALLAHUMMA -G-FIR LI-ASLAAFINAA, WA AFRAATINAA, WA MAN SABAQANAA BI -L-IMAAN].

« Iwo Ọlọhun, se e ni asiwaju, ati ere ti a gbe pamọ di ọjọ lilo fun awọn obi rẹ mejeeji, se e ni olusipẹ ti ipẹ rẹ yoo jẹ gbigba, Iwo Ọlọhun, mu un jẹ ki osunwọn awọn obi rẹ mejeeji o wuwo, mu un jẹ ki ẹsan wọn o tobi, pa a pọ mọ awọn oluse-rere ninu awọn olugbagbọ-ododo, fi i si abẹ itọju Anabi Ibrahim, sọ ọ pẹlu aanu Rẹ nibi iya ina Jaheem, fi ile ti o dara ju ile rẹ lọ jaarọ ile rẹ fun un, ati ẹbi ti o dara ju ẹbi rẹ lọ, Iwo Ọlọhun, fi ori jin awọn asiwaju wa, ati awọn ere-atisiwaju wa, ati awọn ti wọn siwaju wa pẹlu igbagbọ-ododo ».

۲- « اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا، وَسَلَفًا، وَأَجْرًا ». [أخرجه البغوي في شرح

السنة وغيره].

[ALLAHUMMA -J-AL'HU LANAA FARATAN, WA SALAFAN, WA AJRAA].

« Iwo Ọlọhun, se e ni araawaju, ati asiwaju, ati ẹsan fun wa ».

ADUA IBANIKEDUN

« إِنَّ لَهِ مَا أَخَذَ، وَكَهُ مَا أُعْطِيَ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ، وَكَلْتَحَسِبْ ». [رواه البخاري].

[INNA LI-L-LAHI MAA AKHADZA, WA LAHU MAA A'ATAA, WA KULLU SHAIN IN INDAHU BI AJALIN MUSAMMAA, FALTASBIR WALTAHTASIB].

« Dajudaju ti Ọlọhun ni gbogbo ohun ti O gba pada, Oun naa l'O si ni gbogbo ohun t'O jogun fun wa, ati pe gbogbo nnkan pata l'o ni asiko ti Ọlọhun Ọba da fun un, tori naa se suuru, ki o si reti ẹsan ẹ ọdọ Ọlọhun Ọba ». Bukhari l'o gbe e jade.

Ti eniyan ba si sọ pe:

« أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَكَ، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ، وَغَفَرَ لِمَيْتِكَ ».

[A'ADZAMA -L-LAHU AJRAKA WA AH'SANA AZAA'AKA WA GAFARA LIMAYYITIK].

« Ọlọhun O jẹ ki ẹsan ẹ o tobi, yoo si tu ọ ninu, yoo si se aforijin fun ẹni ẹ ti o ku ». O dara.

ADUA TI A O SE NIGBA TI A BA N GBE OKU SINU SAARE

« بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ». [رواه أبو داود].

[BISMI -L-LAH, WA ALAA SUNNATI RASUULI -L-LAH].

« -A n gbe e sinu saare- ni orukọ Ọlọhun, ati lori ilana Ojise Ọlọhun ». Abu-Daa'uud l'o gbe e jadé.

ADUA TI A O SE FUN OKU LEYIN TI A BA
SIN IN TAN

« اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ تَبِّتُهُ ». [رواه أبو داود والحاكم].

[ALLAHUMMA -G-FIR LAHU ALLAHUMMA THABBIT'HU].

« Ọlọhun dari jin in, Ọlọhun fi eṣe ẹ rinle ». Abu-Daa'uud ati Haakim l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA
BE AWON SAARE WO

« السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ ». [رواه مسلم وابن ماجه].

[ASSALAAMU ALAIKUM AHLA -D-DIYAARI MINA -L-MU'UMINEENA WA -L-MUSLIMEEN, WA INNAA IN SHAA'A ALLAHU BIKUM LAAHIQUUN, WA YARHAMU -L-LAHU -L-MUSTAQDIMEENA MINNAA WA -L-MUSTA'AKHIREEN, AS'ALU -L-LAHA LANAA WA LAKUMU -L-AAFIYAH].

« Alaafia Ọlọhun k'o maa ba eyin olugbagbo-ododo [Mumini] ati eyin olugbafa fun Ọlọhun [Musulumi] ti e n be ninu awon saare wonyi, awa naa n bo wa ba yin ti Ọlọhun ba fe, Ọlọhun k'O dari jin awon asiwaju wa ati awon eni-ikeyin ninu wa, mo n be Ọlọhun pe ki O se amojukuro fun awa ati eyin ». Muslim ati Ibn Maajah l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI AFEFE BA N FE

١ - « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا ». [رواه أبو داود وابن ماجه].

[ALLAHUMMA INNEE AS'ALUKA KHAIRAHAA, WA AUUDZU BIKA MIN SHARRIHAA].

« Iwo Ọlọhun, mo n toṣo oore re ọdọ Re, mo si n fi Ọ wa isadi nibi aburu re ». Abu-Daa'uud ati Ibn Maajah l'o gbe e jade.

٢ - « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ ». [متفق عليه].

[ALLAHUMMA INNEE AS'ALUKA KHAIRAHAA, WA KHAIRA MAA FEEHAA, WA KHAIRA MAA URSILAT BIHI, WA AUUDZU BIKA MIN SHARRIHAA, WA SHARRI MAA FEEHAA, WA SHARRI MAA URSILAT BIHI].

« Iwo Ọlọhun, mo n toṣo oore re ọdọ Re, ati oore ohun ti n be ninu re, ati oore ti a fi ran an, mo si n fi Ọ wa isadi nibi aburu re, ati aburu ohun ti n be ninu re, ati aburu ti a fi ran an ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

ADUA TI A O SE NIGBA TI ARA BA SAN

« سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ». [رواه مالك في الموطأ].

[SUBHAANA -L-LADZEE YUSABBIHU -R-RA'ADU BI HAMDIHI
WA -L-MALAAIKATU MIN KHEEFATIH].

« Mimọ ni fun -Ọlọhun- Ẹni ti ara n se afọmọ fun
pẹlu fifi ẹyin fun Un, ti awọn Malaika naa si n se
afọmọ fun Un nitori ibẹru Rẹ ». Maalik l'ọ gbe e jade.

APA KAN NINU AWON ADUA ITORO OJO

۱ - « اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مَرِيئًا، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ،
عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ ». [رواه أبو داود].

[ALLAHUMMA AS'QINAA GAITHAN MUGEETHAN MAREE'AN
MAREE'AN, NAAFI'AN GAIRA DAARRIN, AAJILAN GAIRA
AAJIL].

« Iwọ Ọlọhun, rọ ojo fun wa ni ojo ti yoo ba wa mu
idaamu wa kuro, ti igbeyin rẹ yoo si dara, ojo ti yoo
mu ki ilẹ o ruwe, ti yoo si se wa lanfaani, ti kò si ni i
ko inira ba wa, rọ ọ fun wa laipe ma se jẹ ki o pẹ ».
Abu-Daa'uud l'ọ gbe e jade.

۲ - « اللَّهُمَّ أَغْنِنَا، اللَّهُمَّ أَغْنِنَا، اللَّهُمَّ أَغْنِنَا ». [متفق عليه].

[ALLAHUMMA AGITHNAA, ALLAHUMMA AGITHNAA,
ALLAHUMMA AGITHNAA].

« Iwọ Ọlọhun, rọ ojo fun wa, Iwọ Ọlọhun, rọ ojo fun
wa, Iwọ Ọlọhun rọ ojo fun wa ». Bukhari ati Muslim l'ọ gbe e
jade.

۳ - « اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ، وَبِهَائِمَكَ، وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَخِي
بَلَدَكَ الْمَيِّتَ ». [رواه أبو داود].

[ALLAHUMMA -S-QI IBAADAK, WA BAHAA'IMAK, WA -N-SHUR RAHMATAK, WA -H-YI BALADAKA -L-MAYYIT].

« Iwo Ọlọhun, fun awon eru Re ati awon nnkan-osisin Re ni omi mu, si tan ike Re ka, wa so ilu Re ti o ti ku ji ». Abu-Daa'uud l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI OJO BANRO

« اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا ». [رواه البخاري].

[ALLAHUMMA SAYYIBAN NAAFI'AN].

« Iwo Ọlọhun, se e ni ojo alanfaani ». Bukhari l'o gbe e jade.

AL-DZKIR "IRANTI" TI ENIYAN YOO SE LEYIN TI OJO BANRO TAN

« مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ ». [متفق عليه].

[MUTIRNAA BI FADHLI -L-LAHI WA RAHMATIHI].

« Ọla Ọlọhun ati aanu Re l'o mu ki ojo o ro fun wa ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

APA KAN NINU AWON ADUA TI A O SE NIGBA TI A BANFE KI OJO O WAWO

« اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا. اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظَّرَابِ، وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ ». [متفق عليه].

[ALLAHUMMA HAWAALAINAA WA LAA ALAINAA. ALLAHUMMA ALAA -L-AAKAAMI WA -D-DZIRAAB, WA BUTUUNI -L-AWDIYAH, WA MANAABITI -SH-SHAJAR].

« Iwọ Ọlọhun, awọn ayika wa ni O maa rọ ọ si, ma se rọ ọ si wa lori mọ, Iwọ Ọlọhun, jẹ ki o maa rọ sori awọn ilẹ giga, ati awọn oke keekekee, ati inu awọn oju-do, ati si ara awọn itakun awọn igi ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA RI

OSU

« اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا نُحِبُّ رَبَّنَا وَتَرْضَى، رَبَّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ ». [رواه الترمذي].

[ALLAHU AKBAR, ALLAHUMMA AHILLAHU ALAINAA BI -L-AMNI WA -L-IMAAN, WA -S-SALAAMATI WA -L-ISLAAM, WA -T-TAWFEEQI LIMAA TUHIBBU RABBANAA WA TARDHAA, RABBUNAA WA RABBUKA -L-LAH].

« Ọlọhun l'O tobi ju, Ọlọhun jẹ ki osu yii o le fun wa pẹlu ibalẹ-ọkan ati igbagbo-ododo, ati alaafia ati igbafa fun Ọlọhun Ọba, ati kongẹ lọ sidi ohun ti Iwọ Oluwa wa N fẹ ti O si yọnu si, Ọlọhun ni Oluwa awa ati iwọ [osu] ». At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

ADUA TI ALAAWE YOO SE NIGBA TI O BA

FE SINU

۱- « ذَهَبَ الظَّمَا وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَتَبَّتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ». [رواه أبو داود وغيره].

[DZAHABA -D-DZAMA'U WA -B-TALLATI -L-URUUQ, WA THABATA -L-AJRU INSHA'A ALLAHU].

« Ongbe ti lo, awon isan ara mi si ti tutu "bayii", esan "aawẹ" naa si ti fi esẹ rinle bi Olohun ba fe ».

Abu-Daa'uud ati awon miiran l'o gbe e jade.

٢ - « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ

تَغْفِرَ لِي ». [رواه ابن ماجة].

[ALLAHUMMA INNEE AS'ALUKA BI RAHMATIKA -L-LATEE WASI'AT KULLA SHAIN IN AN TAGFIRA LEE].

« Iwo Olohun, mo n fi aanu Re ti o kari gbogbo nkan toro lodo Re pe ki O se aforijin fun mi ».

Abn Maajah l'o gbe e jade.

ADUA TI I SIWAJU OUNJE

1- Anabi wa "ki ike ati olohun o maa ba a" so pe:

« إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ، فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ

فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ ». [رواه أبو داود والترمذی].

« Nigba ti enikan yin ba fe jeun ki o so pe:

[BISMI -L-LAH] "Mo bere ni oruko Olohun"; ti o ba gbagbe [lati se be] nigba ti yoo bere si jeun, ki o so "nigba ti o ba ranti" pe:

[BISMI -L-LAHI FEE AWWALIHI WA AAKHIRIHI] "Mo bere ni oruko Olohun lakoko ati ni ipari re" ». Abu-Daa'uud ati At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

2- Ojise Ọlọhun “ki ike ati ọla Ọlọhun o maa ba a” tun so pe:

« من أطعمه الله الطعام فليقل: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ؛ ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ. »
[رواه الترمذي].

« Enikeni ti Ọlọhun ba fun ni ounje je ki o so pe: [ALLAHUMMA BAARIK LANAA FEEHI WA AT'IMNAA KHAIRAN MINHU] “Ọlọhun fi oore si i fun wa, k'O si fun wa ni eyi t'o loore ju eleyii lo je”; eniyowu ti Ọlọhun ba si fun ni wara “miliiki” mu ki o wi bayii pe: [ALLAHUMMA BAARIK LANAA FEEHI WA ZIDNAA MINHU] “Iwo Ọlọhun fi oore si i fun wa, k'O si se alekun re fun wa” ». At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO SE LEYIN OUNJE

۱- « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ، مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ ». [أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي].

[AL-HAMDU LI-L-LAHI -L-LADZEE AT'AMANEE HAADZAA WA RAZAQANIHI, MIN GAIRI HAWLIN MINNEE WA LAA QUWWAH].

« Ope ni fun Ọlọhun t'O fun mi ni ounje yii je, t'O si ro mi loro pelu re, lai ko je wi pe ogbon tabi agbara mi lowo si i ». Awon oni-tira Sunna yato si An-Nasaa'i l'o gbe e jade.

٢- « الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ، وَلَا مُسْتَعْنَى عَنْهُ رَبَّنَا ». [رواه البخاري والترمذي].

[AL-HAMDU LI-L-LAHI HAMDAN KHATHEERAN TAYYIBAN MUBAARAKAN FEEHI GAIRA MAKFIYYIN WA LA MUWADDA'IN WA LA MUSTAGNAN ANHU RABBANAA].

« Ọpẹ ni fun Ọlọhun, ni ọpẹ pupọ ti o dara ti o si loore ninu, ọpẹ ti o se pe n kò le du u ki o ọgba pẹlu odiwọn oore ti Ọlọhun se fun mi, ọpẹ ti kò see pati, ti kò si see ma se rara. Iwọ Oluwa wa ». Bukhari ati At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

ADUA TI ALEJO YOO SE FUN OLOUNJE TI O JE

« اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاعْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمَهُمْ ». [رواه مسلم].

[ALLAHUMMA BAARIK LAHUM FEE MAA RAZAQTAHUM, WA -G-FIR LAHUM WA -R-HAMHUM].

« Ọlọhun fi oore si ohun ti O fi ọ wọn lọro, si se aforijin fun wọn, ki O si kẹ wọn ». Muslim l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO SE FUN ENI TI O BA FUN UN NI OMI MU TABI ENI TI O FE FUN UN NI OMI MU

« اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ سَقَانِي ». [رواه مسلم].

[ALLAHUMMA AT'IM MAN AT'AMANEE WA -S-QI MAN SAQAANEE].

« Ọlọhun fun ẹni ti o fun mi ni ounjẹ ni ounjẹ jẹ, si fun ẹni ti o fun mi ni omi mu ni omi mu ». Muslim l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO SE FUN AWON TI O SINU NI ILE WON

« أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ ». [رواه أبو داود وابن ماجة والنسائي في عمل اليوم والليلة].

[AFTARA INDAKUMU -S-SAA'IMUUN, WA AKALA TA'AAMAKUMU -L-ABRAAR, WA SALLAT ALAIKUMU -L-MALAAIKAH].

« Awọn alaawẹ o maa sinu ọdọ yin, ẹ o si maa ri awọn ẹni-rere jẹ ounjẹ yin, awọn Malaaika o si maa se adua fun yin ». Abu-Daa'uud ati Ibn Maajah ati An-Nasaa'i l'o gbe e jade.

ADUA TI ALAAWE O SE NIGBA TI WON BA GBE OUNJE WA TI O SI KO LATI JA AAWE RE

Ojise Ọlọhun “ike ati ọla Ọlọhun k'o maa ba a” sọ pe:

« إِذَا دَعِيَ أَحَدَكُمْ فليجب، فإن كان صائماً فيصلى، وإن كان مفطراً فليطعم ». [رواه مسلم].

« Ti won ba pe ẹnikan yin wa sibi ounjẹ-apejẹ ki o jẹpe, ti oluwaare ba ni aawẹ ki o se adua fun won, ti kò ba si ni aawẹ ki o jẹun ». Muslim l'o gbe e jade.

OHUN TI ALAAWE O WI NIGBA TI ENIKAN BA BU U

« إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ » . [متفق عليه].

[INNEE SAA'IM, INNEE SAA'IM].

« Dajudaju emi n gbaawẹ, dajudaju emi n gbaawẹ » .
Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN O SE NIGBA TI O BARI AKOKOJADE ESO

« اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا
فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدُنَا » . [رواه مسلم].

[ALLAHUMMA BAARIK LANAA FEE THAMARINAA, WA
BAARIK LANAA FEE MADEENATINAA WA BAARIK LANAA
FEE SAA'INAA, WA BAARIK LANAA FEE MUDDINAA].

« Ọlọhun ba ni fi oore si eso wa, si ba ni fi oore si ilu
wa, tun ba wa fi oore si abọ osunwọn wa, si ba wa fi
oore si agolo osunwọn wa » . Muslim l'o gbe e jade.

ADUA TI ENI TI O SIN O SE

Ojise Ọlọhun “ike ati ọla Ọlọhun k'o maa ba
a” sọ pe:

« إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ
صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ:
يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ بِأَلْسِنَتِكُمْ » . [رواه البخاري].

« Nigba ti ɛnikan yin ba sin ki o sọ pe: [AL-HAMDU LI-L-LAH] “Mo dupe fun Ọlọhun”: ki ọmọ-iyà rẹ tabi ẹlẹgbẹ rẹ o sọ fun un pe: [YARHAMUKA -L-LAH] “Ọlọhun O kẹ ọ”, ti o ba si sọ fun un wi pe: [YARHAMUKA -L-LAH], ki o sọ pe: [YAHDEEKUMU -L-LAHU WA YUSLIHU BAALAKUM] “Ọlọhun O fi yin mọna, yoo si tun isesi yin se”». Bukhari l’o gbe e jade.

OHUN TI A O SO FUN ALAIGBAGBO
[KEFERI] NIGBA TI O BA SIN TI O SI DUPE
FUN OLOHUN PE: AL-HAMDU LI-L-LAH

« يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ بِأَلْسِنَتِكُمْ ». [رواه أحمد وأبو داود والترمذي].

[YAHDEEKUMU -L-LAHU WA YUSLIHU BAALAKUM].

« Ọlọhun O fi yin mọna, yoo si tun isesi yin se ».
 Ahmad ati Abu-Daa’uud ati At-Tirmidziyyu l’o gbe e jade.

ADUA TI A O SE FUN ENI TI O GBAYAWO

« بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ ». [أعرجه أصحاب السنن إلا النسائي].

[BAARAKA -L-LAHU LAK, WA BAARAKA ALAIK, WA JAMA’A BAINAKUMAA FEE KHAIR].

« Ọlọhun O se oore fun ọ, yoo si soore le ọ lori, yoo si so ẹyin mejeeji pọ sinu daadaa ».
 Awọn oni-tira Sunna yatọ si An-Nasaa’i l’o gbe e jade.

ADUA TI ENI TI O GBAYAWO ATI ENI TI O **RA ERANKO GUNGUN O SE**

Ojise Ọlọhun “ki ike ati ọla Ọlọhun o maa ba a” sọ pe:

« إذا تزوج أحدكم امرأة، أو إذا اشترى خادماً فليقل: اللَّهُمَّ
إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا
وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروة سنامه
وليقول مثل ذلك.»

« Nigba ti enikan yin ba fe obinrin kan, tabi o ra omọ-odọ “eru” kan ki o sọ pe:-

**[ALLAHUMMA INNEE AS'ALUKA KHAIRAHAA WA KHAIRA
MAA JABALTAHAA ALAIHI, WA AUUDZU BIKA MIN
SHARRIHAA WA SHARRI MAA JABALTAHAA ALAIHI]**

“Ọlọhun mo n tọrọ pe ki O se oore re fun mi ati oore ti O se adamọ re le e lori, mo si n fi Ọ wa isadi nibi aburu re ati aburu ti O se adamọ re le e lori”. Ati pe nigba ti enikan yin ba ra rakunmi kan ki o di oke ike eyin re mu ki o si wi iru awọn gbolohun yii ». Abu-Daa'uud ati Ibn Maajah l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN O SE SIWAJU KI O TOO
BA IYAWO RE LO PO

« بِسْمِ اللّٰهِ . اللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا . »
[متفق عليه].

[BISMI -L-LAH. ALLAHUMMA JANNIBNAA -SH-SHAITAN,
WA JANNIBI -SH-SHAITAANA MAA RAZAQTANAA].

« Ni oruko Olohun, Olohun gbe esu jinna si wa, si
gbe esu naa jinna si ohun ti O ba fi ta wa lope ».
Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

ADUA IBINU

« أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . » [متفق عليه].

[AUUDZU BI-L-LAHI MINNA -SH-SHAITANI -R-RAJEEM].

« Mo n fi Olohun wa isadi kuro ni odo esu eni-
egbe ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

ADUA ENI TI O RI ENIKAN TI OLOHUN FI
ADANWO KAN

« الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً . » [رواه الترمذي].

[AL-HAMDU LI-L-LAHI -L-LADZEE AAFANEE MIMMAA -B-
TALAACA BIHI WA FADH-DHALANEE ALAA KHATHEERIN
MIMMAN KHALAQA TAFDHEELAA].

« Ọpẹ ni fun Ọlọhun t'Ọ ko mi la kuro ninu ohun ti o fi dan ọ wo, ti O si se ajulo fun mi lori ọpọlọpọ ninu awon ẹda ti O da ni ajulo ». At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

OHUN TI ENIYAN YOO MAA WI NIBI TI O **BA TI JOKOO**

Egbawa-oro wa lati odo Umar, “ki Ọlọhun O yonu si i”, pe:

« كان يعد لرسول الله ﷺ في المجلس الواحد من قبل أن يقوم: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْعَفُورُ.»

« A maa n ka jijade “gbolohun yii” ni igba ogorun lati enu Ojise Ọlọhun “ki ike ati ọla Ọlọhun o maa ba a”, ni ibujoko kan siwaju ki o too dide: [RABBI -G-FIR LEE WA TUB ALAIYYA INNAKA ANTA -T-TAWWAABU -L-GAFUUR] “Oluwa mi, dari jin mi, gba ironupiwada mi, dajudaju Iwo ni Olugba-ironupiwada Alaforijin”». At-Tirmidziyyu ati Ibn Maajah l'o gbe e jade.

ADUA TI I PA ESE TI ENIYAN DA NIBI TI O **BA TI JOKOO RE**

« سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ». [معجمه أصحاب السنن].

[SUBHAANAKA -L-LAHUMMA WA BI HAMDIK, ASH'HADU AN LAA ILAAHA ILLA ANT, ASTAGFIRUKA WA ATUUBU ILAIK].

« Mimọ ni fun Iwọ Qlọhun, ope si ni fun Q, mo jeri pe kò si oba kan ti o letọ si pe ki a fi ododo josin fun yatọ si Q, mo n toro idarijin lodọ Re, mo si n ronupiwada lo si odọ Re ». Awon oni-tira Sunna l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN O SE FUN ENI TI O BA SO
FUN UN PE: [GAFARA -L-LAHU LAKI]
OLOHUN O FORI JIN Q

« وَكَذَلِكَ ». [أخرجه أحمد والنسائي].

[WA LAKA].

« Ati iwọ naa ». Ahmad ati An-Nasaa'i l'o gbe e jade.

ADUA TI O SE FUN ENI O SE DAADAA SI Q

« جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا ». [أخرجه الترمذي].

[JAZZAKA -L-LAHU KHAIRAA].

« Qlọhun yoo san o lesan rere ». At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

OHUN TI OLOHUN FI MAA N DAABO BO NI
KURO LODO AD-DAJJAAL -OPURO
OLOJUKAN-

Ojise Qlọhun "ike ati oia Qlọhun k'o maa ba a" so pe:

١- « من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من

الدجال ». رواه مسلم.

« Ènikèni ti o ba ha aayah mewa ni ibeṛe Suratu -l-
Kahf a o daabo bo o kuro loḍo Ad-Dajjaal ». Muslim l'o
gbe e jade.

2- Bakan naa fifi Oloḥun Oba wa isadi kuro nibi
amiwo re leyin ataaya igbeyin "siwaju sisalama"
ninu gbogbo irun.

ADUA TI O SE FUN ENI TI O BA SO FUN O
PE: JINNEE UHIBBUKA FEE -L-LAHI MO
FERAN RE NITORI OLOHUN

« أَحَبُّكَ الَّذِي أَحَبَّتَنِي لَهُ ». [رواه أبو داود].

[AHABBAKA -L-LADZEE AHBABTANEE LAHU].

« Èni ti o tori Re nife mi yoo nife iwọ naa ». Abu-
Daa'uud l'o gbe e jade.

ADUA TI O SE FUN ENI TI O BA KOJU OWO
RE SI O [PE KI O MU EYI TI O BA FE NINU
RE]

« بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ ». [رواه البخاري].

[BAARAKA -L-LAHU LAKA FEE AHLIKA WA MAALIK].

« Oloḥun O ba o fi oore si ara ebi ati owo re ». Bukhari
l'o gbe e jade.

ADUA TI ENI TI O YA ENIYAN LOWO YOO
SE FUN ENI TI O YA LOWO NIGBA TI O BA
SAN AN

« بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلْفِ الْحَمْدُ
وَالْأَدَاءُ ». [رواه النسائي في المعمل اليوم والليلة وابن ماجه].

[BAARAKA -L-LAHU LAKA FEE AHLIKA WA MAALIK,
INNAMAA JAZAA'U -S-SALAFI -L-HAMDU WA -L-ADAA'U].

« Olohun O ba o fi oore si ara ebi ati owo re, ohun ti
i se eesan gbese ni ope ati ki a san an pada ». An-Nasaa'i
ati Ibn Maajah l'o gbe e jade.

ADUA IPAYA ISEBO SI OLOHUN "ASH-
SHIRK"

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا
لَا أَعْلَمُ ». [رواه احمد وغيره].

[ALLAHUMMA INNEE AUUDZU BIKA AN USH'RIKA BIKA WA
ANA A'ALAM, WA ASTAGFIRUKA LIMAA LAA A'ALAM].

« Iwo Olohun, mo sadi Re nibi pe ki n se ebo si O
pelu mimo [ebo naa lebo], mo si n toro aforijin lodu
Re lori ohun ti n ko mo ». Ahmad ati awon miiran l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO SE FUN ENI TI O BA
SO FUN UN PE: [BAARAKA -L-LAHU FEEK]
OLOHUN O FUN O LALUBARIKA [OORE]

« وَفِيكَ بَارَكَ اللَّهُ ». [رواه ابن السني].

[WA FEEKA BAARAKA -L-LAH]

« Qlqhun O fun iwq naa lalubarika "oore" ». Ibn Sunni l'o gbe e jade.

ADUA IKORIRA GBIGBA OHUN ASAN
LASAN KAN GBO PE O LE MU KI IBI O
SEYAN

« اللَّهُمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ». [رواه أحمد وابن السني].

[ALLAHUMMA LAA TAIRA ILLA TAIRUK, WA LAA KHAIRA ILLA KHAIRUK, WA LAA ILAAHA GAIRUK].

« Qlqhun kò si eyẹ kan yatq si eyẹ Rẹ, ati pe kò si oore kan bi ko se oore Rẹ, beq ni kò si qba kan ti o tq lati fi ododo jqsin fun yatq si Q ». Ahmad ati Ibn Sunni l'o gbe e jade.

ADUA ATIGUN OHUN GUNGUN

« بِسْمِ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ . وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ » الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ». [رواه أبو داود والترمذي].

[BISMI -L-LAH, AL-HAMDU LI-L-LAH "SUBHAANA -L-LADZEE SA-KH-KHARA LANAA HAADZAA WA MAA

KUNNA LAHU MUQRINEEN* WA INNA ILAA RABBINAA LAMUNQALIBUUN* AL-HAMDU LI-L-LAH, AL-HAMDU LI-L-LAH, AL-HAMDU LI-L-LAH, ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR, SUBHAANAKA -L-LAHUMMA INNEE DZALAMTU NAFSEE FAGFIR LEE, FA INNAHU LAA YAGFIRU -D-DZUNUUBA ILLA ANT].

« Ni oruko Ọlọhun, ọpẹ ni fun Ọlọhun Ọba, “Mimọ ni fun Ẹni ti O tẹ eleyii lori ba fun wa, ati pe awa kò ni agbara lati tika ara wa tẹ ẹ lori ba. Dajudaju ọdọ Oluwa wa ni ibupadasi wa”. Ọpẹ ni fun Ọlọhun Ọba, ọpẹ ni fun Ọlọhun Ọba, ọpẹ ni fun Ọlọhun Ọba, Ọlọhun l’O tobi ju, Ọlọhun l’O tobi ju, Ọlọhun l’O tobi ju, mimọ ni fun Ọ, Iwo Ọlọhun, mo se abosi fun ori ara mi dari jin mi, nitori pe kò si ẹnikan ti i dari ẹsẹ ẹni jin ni yatọ si Ọ ». Abu-Daa’uud ati At-Tirmidziyyu l’o gbe e jade.

ADUA IRIN-AJO

« **اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ . وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِرْ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ**

مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْظَرِ، وَسَوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ
وَالْأَهْلِ.»

[ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR,
"SUBHAANA -L-LADZEE SA-KH-KHARA LANAA HAADZAA
WA MAA KUNNA LAHU MUQRINEEN* WA INNA ILAA
RABBINAA LAMUNQALIBUUN" ALLAHUMMA INNA
NAS'ALUKA FEE SAFARINAA HAADZAA -L-BIRRA WA -T-
TAQWAA, WA MINA -LAMALI MAA TARDHAA,
ALLAHUMMA HAWWIN ALAINAA SAFARANAA HAADZAA
WA -T-WI ANNA BU'UDAH, ALLAHUMMA ANTA -S-
SAAHIBU FEE -S-SAFAR, WA -L-KHALEEFATU FEE -L-AHL,
ALLAHUMMA INNEE AUUDZU BIKA MIN WA'ATHAA'I -S-
SAFAR, WA KA'AABATI -L-MANDZAR, WA SUU'I
MUNQALABI FEE -L-MAALI WA -L-AHL].

« Ọlọhun l'O tobi ju, Ọlọhun l'O tobi ju, Ọlọhun l'O
tobi ju, "Mimọ ni fun Ẹni ti O tẹ eleyii lori ba fun
wa, ati pe awa kò ni agbara lati tika ara wa tẹ ẹ lori
ba. Dajudaju ọdọ Oluwa wa ni ibupadasi wa". Iwọ
Ọlọhun, a n tọrọ ọdọ Rẹ pe ki O fun wa ni daadaa
ati ipaya Rẹ se lori irin-ajo wa yii, ki O si fun wa ni
isẹ ti O yonu si se, Iwọ Ọlọhun, se irin-ajo wa yii ni
irorun fun wa, si ba ni ka jijinna rẹ ko, Ọlọhun, Iwọ
l'O N bẹ pẹlu wa lori irin-ajo yii, Iwọ Naa si ni
Oluwole de ni lori awon ẹbi wa, Iwọ Ọlọhun, mo n fi
O wa isadi nibi isoro irin-ajo yii, ati nibi riri ohun ti

riri rẹ a maa ba ni lọkan jẹ, ati nibi apadasi-ibu lara nkan-ini mi ati ẹbi mi ».

Nigba ti o ba n dari lati irin-ajo rẹ, o tun wi iru awọn gbolohun t'o siwaju wọnyi pẹlu afikun yii:

« آيْبُون، تَائِبُون، عَابِدُون، لِرَبِّنَا حَامِدُون ». [رواه مسلم].

[AAYIBUUN, TAA'IBUUN, AABIDUUN, LIRABBINAA HAAMIDUUN].

« A pada de, a n ronupiwada lọ si ọdọ Ọlọhun, a n jọsin fun Ọlọhun, a si n fi ọpẹ fun Oluwa wa nikan».

Muslim l'o gbe e jade.

ADUA ATIWO ILETO TABI ILU NLA

« اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الْأَرْضِينَ وَمَا

أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَّاحِ وَمَا ذَرَيْنَ،

أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَأَعُوذُ بِكَ

مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ أَهْلِهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا ». [رواه الحاكم وابن السني].

[ALLAHUMMA RABBA -S-SAMAAWAATI -S-SAB'I WA MAA ADZLALNA, WA RABBA -L-ARADHEENA -S-SAB'I WA MAA AQLALNA, WA RABBA -SH-SHAYAATEENI WA MAA ADHLALNA, WA RABBA -R-RIYAAHI WA MAA DZARAINA, AS'ALUKA KHAIRA HAADZIHI -L-QARYATI WA KHAIRA AHLIHAA, WA KHAIRA MAA FIHAA, WA AUUDZU BIKA MIN SHARRIHAA, WA SHARRI AH'LIHAA WA SHARRI MAA FEEHAA].

« Iwọ Ọlọhun, Oluwa awọn sanma mejeeje ati ohun ti wọn jẹ aja fun, Oluwa awọn ilẹ mejeeje ati ohun ti wọn gbe duro, Oluwa awọn esu ati ohun ti wọn n si lona, Oluwa atẹgun ati ohun ti n gbe danu, mo n tọrọ oore ileto yii ọdọ Rẹ, ati oore awọn ara ibẹ, ati oore ohun ti n bẹ ninu rẹ, mo si n fi Ọ wa isadi nibi aburu rẹ, ati aburu awọn ara ibẹ, ati aburu ohun ti n bẹ ninu rẹ » . Al-Haakim ati Ibn Sunni l'o gbe e jade.

ADUA ATIWỌ OJA

« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » . [رواه الترمذي والحاكم].

[LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WAHDAHU LAA SHAREEKA LAH, LAHU -L-MULKU WA LAHU -L-HAMD, YUHYEE WA YUMEETU WA HUWA HAYYUN LAA YAMUUT, BIYADIHI -L-KHAIR, WA HUWA ALAA KULLI SHAIN IN QADEER].

« Kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọlọhun nikan soso, kò si orogun fun Un, Oun l'O ni akoso ati ọpẹ, Oun ni N mu ni sẹmi, bẹẹ ni Oun naa ni I pa ni, ati pe Oun ni Alaaye ti kò ni I ku rara, ọwọ Rẹ ni gbogbo oore wa, Oun si ni Alagbara lori gbogbo nnkan » . At-Tirmidziyyu ati Al-Haakim l'o gbe e jade.

**ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA
RE OHUN TI O GUN**

« بِسْمِ اللَّهِ ». [رواه أبو داود].

[BISMI -L-LAH]

« Ni oruko Qolohun Qba ». Abu-Daa'uud l'o gbe e jade.

**ADUA TI ONIRIN-AJO O SE FUN AWON TI
YOO FI SILE**

« أَسْتَوْدِعُكُمْ اللَّهَ الَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ ». [رواه أحمد وابن ماجه].

[ASTAWDI'UKUMU -L-LAHA -L-LADZEE LAA TADHEE'U
WADAA'IUHU].

« Mo fi Qolohun Qba so yin, Eni ti awon ohun afunso
Re ki i sonu ». Ahmad ati Ibn Maajah l'o gbe e jade.

**ADUA TI ENI TI N BE NILE O SE FUN
ONIRIN-AJO**

۱ - « أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ ». [رواه

أحمد والترمذي].

[ASTAWDI'U -L-LAHA DEENAK, WA AMAANATAK, WA
KHAWAATEEMA AMALIK].

« Mo fi Qolohun Qba so esin re ati ifokantan-ni re ati
asegbeyin ishe re ». Ahmad ati At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

۲ - « زُوِّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَيَسِّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ

مَا كُنْتَ ». [رواه الترمذي].

[ZAWWADAKA -L-LAHU -T-TAQWAA, WA GAFARA
DZANBAK, WA YASSARA LAKA -L-KHAIRA HAITHU MAA
KUNT].

« Qlōhun O pese ipaya [Rẹ] fun ọ, yoo si dari ẹsẹ rẹ
jin ọ, yoo wa se oore ni irọrun fun ọ ni ibikibi ti o ba
WA ». At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

GBIGBE OLOHUN TOBI ATI SISE AFOMO FUN UN LORI IRIN-AJO

Jaabir Ibn Abdullah "ki Qlōhun O yonu si i" sọ
pe:

« كُنَّا إِذَا صَعَدْنَا كَبْرَتَا، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا ».

« Awa a maa gbe Qlōhun tobi; -ALLAHU AKBAR-,
nigba ti a ba n gunke, a si maa se afomọ fun Qlōhun
-SUBHAANA -L-LAH-, nigba ti a ba n sọ kalẹ -lati aye
giga- ». Bukhari l'o gbe e jade.

ADUA ONIRIN-AJO NI KUTU-IDAJI

« سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ، وَحُسْنِ بَلَاغِهِ عَلَيْنَا. رَبَّنَا صَاحِبِنَا،
وَأَفْضَلُ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ». [رواه مسلم].

[SAMMA'A SAAMIUN BI HAMDİ -L-LAH, WA HUSNI
BALAAIHI ALAINAA. RABBANAA SAAHIBNAA, WA AFDHIL
ALAINAA AA'IDZAN BI -L-LAHI MINA -N-NAAR].

« Ki ẹni ti o ba gbọ ọpẹ mi ti mo da fun Qlōhun ati
ohun ti mo wi nipa ẹbun -apọnle- rere ti O se fun wa
o sọ ọ fun ẹni ti kò gbọ ọ, Oluwa dakun pẹlu wa, ki

O si se alekun oore Re fun wa, mo n fi Qlqhun wa isq nibi ina ». Muslim l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN O SE NIGBA TI O BA SO SI
AYE KAN LORI AJO TABI NNKAN MIIRAN

« أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ». [رواه مسلم].

[AUUDZU BI-KALIMAATI -L-LAHI -T-TAMMAATI MIN SHARRI
MAA KHALAQ].

« Mo n fi awon gbolohun Qlqhun ti won pe wa isadi
nibi aburu ohun ti O da ». Muslim l'o gbe e jade.

IRANTI [AL-DZIKR] PIPADA LATI IRIN-AJO

Yoo maa gbe Qlqhun tobi -ALLAHU AKBAR-
leṣemeta, ni gbogbo igba ti o ba wa lori aye giga,
leyin naa ni yoo wa so pe:

« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ،
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ، ثَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا
حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ
وَحْدَهُ ». [متفق عليه].

[LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WAHDAAHU LAA SHAREEKA LAH,
LAHU -L-MULKU WA LAHU -L-HAMD, WA HUWA ALAA KULLI
SHAIN IN QADEER, AAYIBUUN, TAA'IBUUN, AABIDUUN, LI-
RABBINAA HAAMIDUUN, SADAQA -L-LAHU WA'ADAH, WA
NASARA ABDAAH, WA HAZAMA -L-AHZAABA WAHDAAH].

« Kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọlọhun Ọba nikan soso, kò si orogun fun Un, Oun l'O ni akoso ati ọpẹ, Oun si ni Alagbara lori gbogbo nnkan, a pada de, a n ronupiwada lọ si ọdọ Ọlọhun, a si n jọsin fun Ọlọhun, a si n fi ọpẹ fun Oluwa wa nikan, Ọlọhun mu adehun Rẹ sẹ, O si se aranse fun ẹru Rẹ, O si sẹgun awọn ijọ alaigbagbo l'Oun nikan SOSO ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

OHUN TI ENI TI NNKAN IDUNNU TABI TI NNKAN TI KO FE BA DE SI YOO WI

« كان النبي ﷺ إذا أتاه الأمر يسره قال: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ », وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: « الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ». [رواه ابن السني والحاكم].

Ojise Ọlọhun “ike ati ọla Ọlọhun k'o maa ba a” a maa wi pe:

[AL-HAMDU LI-L-LAHI -L-LADZEE BINI'IMATIHI TATIMMU -S-SALIHAAT]

« Ọpẹ ni fun Ọlọhun Ọba ti O se wi pe pelu idera Rẹ ni awọn daadaa fi maa n pe »; nigba ti ohun ti o dun un ninu ba sele si i. Ati pe nigba ti ohun ti kò fe ba sele si i a maa sọ pe:

[AL-HAMDU LI -L-LAHI ALAA KULLI HAAL].

« Ọpẹ ni fun Ọlọhun Ọba lori gbogbo ipo [ti eniyan ba ba ara re] ». Ibn Sunni ati Al-Haakim l'o gbe e jade.

**OLA TI N BE FUN SISE ASALATU [TITORO
IKE ATI IGE] FUN ANABI WA IKE ATI OLA
OLOHUN K'O MAA BA A**

1- Ojise Ọlọhun "ki ike ati ọla Ọlọhun o maa ba a"
sọ pe:

« من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً ». [رواه مسلم].

« Ẹnikeni t'o ba se asalatu kan fun mi Ọlọhun Ọba
yoo tori re se asalatu mewa fun un ». Muslim l'o gbe e jade.

2- Ojise Ọlọhun "ike ati ọla Ọlọhun k'o maa ba a"
tun sọ pe:

« لا تجعلوا قبوري عيداً وصلوا علي؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث

كنتم ». [رواه أحمد وأبو داود].

« Ẹ kò gbodo sọ saare mi di ohun ti ẹ o maa se odun
fun, ẹ si maa se asalatu fun mi, nitori pe dajudaju
asalatu yin yoo maa de odo mi lati ibikibi ti ẹ ba
wa ». Ahmad ati Abu-Daa'uud l'o gbe e jade.

3- Ojise Ọlọhun "ike ati ọla Ọlọhun k'o maa ba a"
tun sọ pe:

« البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي ». [رواه الترمذي].

« Ẹni ti won daruko mi loḍo re ti kò se asalatu fun
mi ni ahun ». At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

4- Ojise Ọlọhun "ike ati ọla Ọlọhun k'o maa ba a"
tun sọ pe:

« إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من أممي السلام ». [رواه النسائي والحاكم].

« Dajudaju Ọlọhun Ọba ni awọn Malaika arinkaye kan lori ile ti wọn o maa jise kiki “salama” ti awọn ijọ mi ba n ki mi fun mi ». An-Nasaa'i ati Al-Haakim l'o gbe e jade.

5- Ojise Ọlọhun “ike ati ọla Ọlọhun k'o maa ba a” tun so pe:

« ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليّ روحي حتى أرى عليه السلام ». [رواه أبو داود].

« Ẹnikan kò ni i salama si mi a fi ki Ọlọhun O da ẹmi mi pada fun mi titi ti n o fi dahun kiki ti o ki mi ». Abu-Daa'uud l'o gbe e jade.

TITAN SALAMA [KIKI ARA ENI NI TI OLAI KA

1- Ojise Ọlọhun “ki ike ati ọla Ọlọhun o maa ba a” so pe:

« لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تَوْمَنُوا، وَلَا تَوْمَنُوا حَتَّى تَحَابُوا، أَوْ لَا أَدْلِكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابْتُمْ، أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

« Ẹ kò ni i wọ Al-Janna -ogba idera- titi ti ẹ o fi ni igbagbo-ododo, ati pe ẹ kò ni i ni igbagbo-ododo titi ti ẹ o fi fẹran ara yin, nje ẹ o yoo wa je ki n toka si

nnkan kan fun yin ti o se wi pe ti e ba se e e o nife ara yin bi?; e maa tan salama "kiki ara eni ni ti o la" ka laarin yin ». Muslim l'o gbe e jade.

2- Ojise Olohun "ike ati o la Olohun k'o maa ba a" so pe:

« ثَلَاثٌ مِنْ جَمْعِهِنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيْمَانَ: الْإِنصَافُ مِنْ نَفْسِكَ، وَبِذَلِ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ، وَالْإِنْفَاقِ مِنَ الْإِقْتَارِ ». رواه البخاري.

« Enikeni ti o ba ri nnkan meta kan kojọ dajudaju oluwaare ti ri igbagbo-ododo kojọ: Sise dogba fun awon eniyan lori ara re -ki o maa fun eni ti o ba letọ kan lodọ re ni etọ re peerepe-, titan salama ka fun awon araye, nina owo t'ohun ti aiko fe na an ». Bukhari l'o gbe e jade.

3- Egbawa-orọ yii wa lati odọ Abdullahi Ibn Umar "Olohun Oba k'O yonu si awon mejeeji" o ni: Okunrin kan bi Anabi "ki ike ati o la Olohun o maa ba a" leere pe: Islam wo l'o loore ju?; Ojise Olohun si da a lohun pe:

« تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ».

متفق عليه.

« Ki o maa fun [awon eniyan] ni onunje je, ki o si maa salama si eni ti o mo ati eni ti o ko mo ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

BLA O TI DA ALAIGBAGBO [KEFERI]
LOHUN NIGBA TI O BA SALAMA SI WA

Ojise Ọlọhun “ikẹ ati ọla Ọlọhun k’o maa ba a” ni:

« إذا سلم عليكم أهل الكتاب، فقولوا: وَعَلَيْكُمْ ». مطر عليه.

« Ti awon oni-tira “awon Yahudi tabi awon Nasaara -awon alagbelebu-” ba salama si yin e da won lohun pe: [WA ALAIKUM] ». Bukhari ati Muslim l’o gbe e jade.

ADUA TI A O SE NIGBA TI AKUKO BA KO,
ATI NIGBA TI KETEKETE BA KE

Ojise Ọlọhun “ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a” so pe:

« إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نقيق الحمام فتعوذوا بالله من الشيطان؛ فإنه رأى شيطانا ». مطر عليه.

« Nigba ti e ba gbọ kikọ awon akukọ e maa toro loḍo Ọlọhun pe k’O fun yin ninu oore Re, nitori pe dajudaju Malaika kan ni won ri; nigba ti e ba si gbọ igbe ketekete e maa fi Ọlọhun wa isadi kuro ni oḍo esu, nitori pe dajudaju esu kan ni o ri ». Bukhari ati Muslim l’o gbe e jade.

ADUA TI A O SE NIGBA TI A BA GBO GBIGBO AJA LORU

Ojise Ọlọhun “ki ike ati ọla Ọlọhun o maa ba a” sọ pe:

« إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله

منهن، فإنهن يرين ما لا ترون ». رواه أبو داود.

« Nigba ti ẹ ba gbọ gbigbo awọn aja ati kike awọn ketekete ni oru, ẹ maa fi Ọlọhun wa isadi kuro ni ọdọ wọn, nitori pe dajudaju awọn n ri ohun ti ẹyin ki i ri ». Abu-Daa'uud l'o gbe e jade.

ADUA TI O SE FUN ENI TI O BA BU

Ojise Ọlọhun “ki ike ati ọla Ọlọhun o maa ba a” sọ pe:

« اللَّهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ ». [متفق عليه].

[ALLAHUMMA FA-AYYUMAA MU'UMININ SABABTUHU FA-J-AL DZAALIKA LAHU QURBATAN ILLAIKA YAWMA -L-QIYAAMAHA].

« Iwo Ọlọhun! gbogbo olugbagbo-ododo ti mo bu ri je ki eebu naa o je ohun ti yoo mu un sun mo Ọ ni ojo igbende ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

OHUN TI MUSULUMI YOO WI NIGBA TI YOO BA YIN MUSULUMI EGBE RE

Ojise Ọlọhun “ike ati ọla Ọlọhun k’o maa ba a” sọ pe:

« إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحداً أحسبه - إن كان يعلم ذاك - كذا وكذا ». [رواه مسلم].

« Ti ẹnikan yin ba ri wi pe kò si ibuyesi kan fun oun lati ma yin ẹlẹgbẹ oun ki oluwaare o sọ bayii pe: Mo lero wi pe bayii bayii ni lagbaja ri, Ọlọhun ni yoo se isiro isẹ fun un, ati pe n kò fọ ẹnikan mọ ni iwaju Ọlọhun ». Muslim l’o gbe e jade.

OHUN TI MUSULUMI YOO SO NIGBA TI WON BA FO O MO [TI WON BA YIN IN]

« اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ، وَأَعْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ،
وَأَجْعَلْنِي خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ ». [رواه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي].

[ALLAHUMMA LAA TU’AAKHIDZNEE BI MAA YAQUULUUN,
WA G’FIR LEE MAA LAA YA’ALAMUUN, WA ‘J’ALNEE
KHAIRAN MIMMAA YADZUNNUUN].

« Ọlọhun, dakun ma se fi ohun ti won n wi jẹ mi niya, si se aforijin fun mi lori ohun ti won kò mọ “nipa mi”, ki O si jẹ ki n dara ju bi won ti n lero lọ ». Bukhari l’o gbe e jade ninu Al-Adabu-l-Mufrad ati Baihaqiyyu.

**BAWO NI ENI TI O GBE HARAMI FUN HAJI
TABI UMURA YOO TI MAA WI GBOLOHUN
IJEPE [TELBIYYAH]**

« لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنَّعْمَةَ
لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ ». [منقول عليه].

[LABBAIKA -L-LAHUMMA LABBAIK, LAA SHAREEKA LAKA
LABBAIK, INNA -L-HAMDA WA -N-NI'IMATA LAKA WA -L-
MULK, LAA SHAREEKA LAK].

« Mo jẹpe Rẹ lẹyin jijẹpe Rẹ Iwọ Ọlọhun, mo jẹpe
Rẹ lẹyin jijẹpe Rẹ, kò si orogun fun Ọ mo jẹpe Rẹ,
dajudaju Iwọ l'O ni gbogbo ẹyin ati gbogbo idera ati
gbogbo akoso, kò si orogun kan fun Ọ » Bukhari ati
Muslim l'o gbe e jade.

**GBIGBE OLOHUN TOBI -ALLAHU AKBAR-
NIGBA TI O BA DE IBI AL-HAJARU-L-
ASWAD [OKUTA DUDU].**

« طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كَلِمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ
بِشَيْءٍ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ ». [رواه البخاري].

« Anabi wa "ikẹ ati ọla Ọlọhun k'o maa ba a" se
irọkirika ile Oluwa -Tawaaf- lori rakunmi kan, ni
gbogbo igba ti o ba de origun ti okuta dudu -Al-
Hajaru-l-Aswad- wa o maa n tọka si i pẹlu nnkan
kan -pọpa abori-kọrọyi- ti n bẹ lọdọ rẹ, yoo si sọ pe:
ALLAHU AKBAR ». Bukhari l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO MAA SE LAARIN
ORIGUN YAMAANI ATI TI OKUTA DUDU
[AL-HAJARU-L-ASWAD]

« رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ». [رواه احمد و ابو داود].

[RABBANAA AATINAA FEE -D-DUNIYAA HASANATAN WA FEE -L-AAKHIRATI HASANATAN WA QINAA ADZAABA -N-NAAR].

« Oluwa wa, fun wa ni daadaa ni ile-aye, si fun wa ni daadaa ni ile-igbeyin, wa so wa nibi iya ina ». Ahmad ati Abu-Daa'uud l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA
DURO LORI SAFA ATI MARWA

« لما دنا ﷻ من الصفا قرأ ﴿ إِنَّ الصَّافَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ أبدأ بما بدأ الله به؛ فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعَدَهُ، وَتَصَرَّ عَبْدُهُ، وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَحْدَهُ ». ثم دعا بين ذلك؛ قال مثل هذا ثلاث

مرات « الحديث. وفيه « ففعل على المروة كما فعل على الصفا ».

« Nigba ti Anabi wa “ki ike ati ọla Ọlọhun o maa ba a” sun mo oke Safa o ka: .

[INNA -S-SAFAA WA -L-MARWATA MIN SHA’AAIRI -L-LAH]

“Dajudaju Safa ati Marwa n be ninu awon aye ijosin fun Ọlọhun ti O sami si fun awon eniyan”.

[ABDAU BI MAA BADA’A ALLAHU BIHI].

“N o bere pelu ohun ti Ọlọhun fi bere”. O si bere pelu Safa, o gun ori re titi o fi ri ile Ọlọhun, o si da oju ko Kaaba, o si se Ọlọhun laaso, o si gbe E ga, o si so pe:

[LAA ILAAHA ILLAL-LAHU WAHDAHU LAA SHAREEKA LAH, LAHU -L-MULKU WA LAHU -L-HAMD, WA HUWA ALAA KULLI SHAIN IN QADEER, LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WAHDAH, ANJAZA WA’ADAH, WA NASARA ABDAH, WA HAZAMA -L-AHZAABA WAHDAH]

“Kò si ọba kan ti o to lati fi ododo josin fun yatọ si Ọlọhun nikan soso, kò si orogun fun Un, Oun l’O ni gbogbo akoso ati ope, Oun si ni Alagbara lori gbogbo nnkan, kò si ọba kan ti o to lati fi ododo josin fun yatọ si Ọlọhun nikan soso, O pe adehun Re, O si se atileyin fun eru Re, O si segun awon ijo alaigbagbo l’Oun nikan soso”; o si sadua leyin eleyii, o se bayii lemeeta -pelu sise adua laarin won-; o wa ninu egbawa-orọ yii kan naa wi pe: “Ojise Ọlọhun

tun se gęęę bi o ti se ni ori okuta Safa yii lori okuta
Marwa »». Muslim l'o gbe e jade.

ADUA OJO ARAFA

Anabi "ikęę ati ęła Qłohun k'o maa ba a" sę pe:
« خیر الدعاء دعاء يوم عرفة، وخیر ما قلت أنا والنبيون من
قبلي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ». [رواه الترمذي].

« Eyi ti o loore ju ninu adua ni adua oęo Arafa, ati pe
ohun ti o loore ju ti emi ati awęon anabi ti węon siwaju
mi wi "ni oęo yii" ni:

[LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WAHDAMU LAA SHAREEKA LAH,
LAHU -L- MULKU WA LAHU -L-HAMD, WA HUWA ALAA KULLI
SHAIN IN QADEER]

"Kò si ęba kan ti o tę lati fi ododo jęsin fun yatę si
Qłohun nikan soso, kò si orogun fun Un, Oun l'O ni
gbogbo akoso ati oęę, Oun si ni Alagbara lori
gbogbo nnkan"»». At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

SISE IRANTI OLOHUN NI AL-MASH'ARU-L- HARAAM [NI MUZDALIFAH]

« ركب مكة القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة
"فدعاه، وكبره، وهلله، ووحدته"، فلم يزل واقفا حتى أسفر
جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس ». [رواه مسلم].

« Ojisẹ Ọlọhun “ikẹ ati ọla Ọlọhun k’o maa ba a”
 gun Al-qaswaa -rakunmi rẹ-, “lati Arafa” titi o fi de Al-
 Mash’aru-l-Haraam “ni Muzdalifah”, o si d’ọju kọ Al-qibla
 “iha Kaaba”, “O si bẹrẹ si pe Ọlọhun, o si n se
 agbega Rẹ -ALLAHU AKBAR-, o si n wi gbolohun pe kò
 si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si I -LAA
 ILAAHA ILLA -L-LAH-, o si n se E laaso”, kò si yee bẹ ni
 iduro titi ti ilẹ fi mọ kedere, o si gbera kuro nibẹ
 siwaju ki oorun o too yọ ». Muslim l’o gbe e jade.

WIWI GBOLOHUN ALLAHU AKBAR NIGBA
TI A BA N SỌ OKO KOOKAN NI
IBUSOLOKO [NI MINA]

Anabi wa “ikẹ ati ọla Ọlọhun k’o maa ba a”

« يَكْبُرُ كَلِمًا رَمَى بِحِصَاةٍ عِنْدَ الْجَمَارِ الثَّلَاثِ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، وَيَقِفُ
 يَدْعُو مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، رَافِعًا يَدَيْهِ بَعْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ. أَمَّا
 جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ فَيَرْمِيهَا وَيَكْبُرُ عِنْدَ كُلِّ حِصَاةٍ وَيُنْصَرِفُ وَلَا يَقِفُ
 عِنْدَهَا ». [متفق عليه].

« A maa wi pe: “ALLAHU AKBAR” ni gbogbo igba ti o
 ba n sọ oko kọọkan ni awọn ibusọloko mẹtẹtẹta,
 nigba ti ọ ba pari oko sisọ ti ibusọloko alakọkọ “ti i
 se aye isọko kekere” ati ẹlẹkẹjẹ “ti aarin” a maa rin
 siwaju -diẹ- lẹyin ọkọọkan wọn, yoo si duro se adua,
 pẹlu kikọju si Al-qibla “iha Kaaba”, yoo si gbe ọwọ
 rẹ mejeeji soke, sugbọn nigba ti o ba de ibusọloko

ẹlẹkẹta ti a mọ si Aqaba “ninla” nse ni i maa n sọ ọ loko pẹlu wiwi gbolohun “ALLAHU AKBAR” pẹlu oko kọọkan, yoo si pẹyinda lai kò duro nibẹ lati se adua». Bukhari ati Muslim l’o gbe e jade.

**ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI NNKAN
KAN BA YA A LENU, TABI O DUN UN NINU**

۱- «سُبْحَانَ اللَّهِ». [متفق عليه].

[SUBHAANA -L-LAH].

« Mimọ ni fun Ọlọhun Ọba ». Bukhari ati Muslim l’o gbe e jade.

۲- «اللَّهُ أَكْبَرُ». [رواه البخاري].

[ALLAHU AKBAR].

« Ọlọhun l’O tobi ju ». Bukhari l’o gbe e jade.

**OHUN TI ENI TI NNKAN IDUNNU BA SELE
SI YOO SE**

« كان النبي ﷺ إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خرقاً ساجداً شكراً
لله تبارك وتعالى ». [رواه أهل السنن إلا النسائي].

« Anabi wa “ikẹ ati ọla Ọlọhun k’o maa ba a” a maa f’ori balẹ ni ti idupe fun Ọlọhun Ọba ibukun ati giga nigba ti nnkan ti n dun un ninu tabi ohun ti n dunnu si ba seleş si i ». Awọn Oni-tira Sunna l’o gbe e jade yato si An-Nasaa’i.

OHUN TI ENI TI N JE IRORA YOO WI

Anabi wa “ikẹ ati ọla Ọlọhun k’o maa ba a” sọ pe:

« ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بِسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا،
وقل سبع مرات: أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ ».
[رواه مسلم].

« Fi ọwọ rẹ le ibi ti n dun ọ lara rẹ, ki o wa sọ pe:
[BISMI -L-LAH] lẹmẹta, ki o si wi [awọn gbolohun ti n
bọ yii] lẹmeje:

**[AUUDZU BI -L-LAHI WA QUDRATIHI MIN SHARRI MAA
AJIDU WA UHAADZIR]**

“Mo n fi Ọlọhun Ọba ati agbara Rẹ wa isadi nibi
aburu ohun ti n se mi ati eyi ti mo n paya” ». Muslim l’o
gbe e jade.

ADUA TI ENI TI N BERU KI OUN O MA FI OJU OUN BA NNKAN KAN JE YOO SE

Ojise Ọlọhun “ike ati ọla Ọlọhun k’o maa ba
a” sọ pe:

« إذا رأى أحدكم من أخيه، أو من نفسه، أو من ماله ما
يعجبه [فليدع له بالبركة] فإن العين حق » . [رواه مسلم وأحمد وابن
ماجة].

« Nigba ti ẹnikan ninu yin ba ri nnkan kan ti o jọ ọ
loju lọdọ ọmọ-iyara rẹ, tabi ni ara rẹ, tabi lara owo rẹ,
ki o sadua fun un pe ki Ọlọhun O ba a fi oore si i,
nitori pe dajudaju ododo ni oju i se » . Maalik ati Ahmad ati
Ibn Maajah l’o gbe e jade.

OHUN TI ENIYAN O MAA WI NI ASIKO
IJAYA

« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ». [متفق عليه].

[LAA ILAAHA ILLA -L-LAH].

« Kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si
Ọlọhun Ọba ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

OHUN TI ENIYAN YOO WI NIGBA TI O BA
FE DURAN TABI YOO GUNRAN

« بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي ». [رواه
مسلم والبيهقي].

[BISMI -L-LAHI WA -L-LAHU AKBAR, ALLAHUMMA MINKA
WA LAKA, ALLAHUMMA TAQABBAL MINNEE].

« Mo bẹrẹ ni orukọ Ọlọhun, Ọlọhun l'O tobi ju, Iwọ
Ọlọhun, ọdọ Rẹ l'o ti wa, ati pe tiE ni i se, Iwọ
Ọlọhun gba a "lẹsin" fun mi ». Muslim ati Al-Baihaqiyyu l'o
gbe e jade.

OHUN TI ENIYAN YOO WI LATI TI ETE
AWON ESU ALAGBERE DANU

« أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ
شَرِّ مَا خَلَقَ، وَبَرًّا وَذَرًّا، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ
شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا

يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فَتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ
يَطْرُقُ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ». [رواه احمد].

[AUUDZU BI-KALIMAATI -L-LAHI -T-TAAMMAATI -L-LATEE
LAA YUJAAWIZUHUNNA BARRU WA LAA FAAJIRUN MIN
SHARRI MAA KHALAQA WA BARA'A WA DZARA'A, WA MIN
SHARRI MAA YANZILU MINA -S-SAMAA'I, WA MIN SHARRI
MAA YA'ARUJU FEEHAA, WA MIN SHARRI MAA DZARA'A
FEE -L-ARDH, WA SHARRI MAA YA'KH'RUJU MINHAA, WA
MIN SHARRI FITANI -L-LAILI WA -N-NAHAAR, WA MIN
SHARRI KULLI TAARIQIN YATRUQU ILLA TAARIQAN
YATRUQU BI KHAIRIN YAA RAHMAAN].

« Mo n fi awon gbolohun Ololohun ti won pe, awon ti
o se wi pe oluse-rere kan tabi eleses kan ko lee tayon
won wa isadi nibi aburu ohun ti Ololohun da, ati awon
eranko ati awon aromodomomo ti O da, ati nibi aburu
ohun ti n so lati sanma, ati nibi aburu ohun ti n
gunke lo si inu sanma, ati nibi aburu ohun ti O da si
ori ile, ati nibi aburu ohun ti n jade ninu ile, ati nibi
aburu awon amiwo oru ati ti osan, ati nibi aburu
gbogbo ohun ti i maa n fi oru ja lu ni lojiji, yatso si
eyi ti yoo mu oore wa, mo n ke pe Iwo Oba
Alaananu». Ahmad l'o gbe e jade.

ITORO AFORIJIN ATI IRONUPIWADA

1- Ojise Ololohun "ike ati ola Ololohun k'o maa ba a"
so pe:

« والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة ». [رواه البخاري].

« Mo fi Ọlọhun bura pe emi a maa tọrọ aforijin lọdọ Ọlọhun, mo si maa n se ironupiwada lọ si ọdọ Rẹ ju igba aadọrin lọ ni ojumọ kan ». Bukhari l'o gbe e jade.

2- Ojise Ọlọhun “ike ati ọla Ọlọhun k'o maa ba a” tun sọ pe:

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوْبُوا إِلَيَّ اللَّهُ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةً مَرَّةً ». [رواه مسلم].

« Eyin eniyan ẹ maa ronupiwada lọ si ọdọ Ọlọhun Ọba, tori pe dajudaju emi gan-an alara a maa ronupiwada lọ si ọdọ Rẹ ni igba ọgọrun ni ojumọ kan ». Muslim l'o gbe e jade.

3- Ojise Ọlọhun “ike ati ọla Ọlọhun k'o maa ba a” tun sọ pe:

« من قال: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرًّا مِنَ الزَّحْفِ ». [أخرجه أبو داود والترمذي].

« Enikeni t'o ba sọ pe: [ASTAGFIRU -L-LAHA -L-ADZEEMA -L-LADZEE LAA ILAAHA ILLA HUWA -L-HAYYA -L-QAYYUUMA WA ATUUBU ILAIHI]. Itumọ: “Mo n tọrọ aforijin lọdọ Ọlọhun Ọba t'O tobi, Ọba t'O se pe kò si ọba miiran ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si I,

Qba Alaaaye Oludawa, mo si n ronupiwada lo si odo Re”.

Qlohun yoo se aforijin fun un, koda ki o se pe sisa ni o sa kuro ni oju-ogun ». Abu-Daa'uud ati At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

4- Ojise Qlohun “ike ati olo Qlohun k'o maa ba a” tun so pe:

« أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. »

[رواه الترمذي والنسائي].

« Igba ti Oluwa Qba maa N sunmo eru Re ju ni ikayin aarin oru, tori naa ti o ba see se fun o lati je eni ti yoo maa se Al-dziki “iranti Qlohun Qba” ni asiko naa se be ». At-Tirmidziyyu ati An-Nasaa'i l'o gbe e jade.

5- Ojise Qlohun “ike ati olo Qlohun k'o maa ba a” tun so pe:

« أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا

الدعاء. » [رواه مسلم].

« Igba ti eru Qlohun maa n sunmo Oluwa re ju ni igba ti o ba fi ori kanle, nitori naa e maa se ololopo adua “ninu iforikanle yin” ». Muslim l'o gbe e jade.

6- Ojise Qlohun “ike ati olo Qlohun k'o maa ba a” tun so pe:

« إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة ». [رواه مسلم].

« Dajudaju “igbagbe” a maa bo mi lōkan -ni eḡkanlaare lati se iranti Ọlōhun-, ati pe dajudaju emi a maa tōrō idarijin lōdō Ọlōhun ni igba oḡorun lōjoojumō ». Muslim l’o gbe e jade.

OLA TI N BE FUN GBOLOHUN “SUBHAANA -L-LAH” ATI “AL-HAMDU LI L-LAH” ATI “LAA ILAAHA ILLA -L-LAH” ATI “ALLAHU AKBAR”

1- Ojiseḡ Ọlōhun “ikē ati ọla Ọlōhun k’o maa ba a” sọ pe:

« من قال: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ في يوم مائة مرة حطت خطاياہ ولو كانت مثل زبد البحر ». [متفق عليه].

« Eḡikenì ti o ba sọ pe: “SUBHAANA -L-LAHI WA BIHAMDIHI” ni igba oḡorun ni ojumoḡ kan, Ọlōhun O pa asise rē rē fun un, b’o fē ki o jē pe awon asise naa pọ bii ifoofoo ori omi okun ». Bukhari ati Muslim l’o gbe e jade.

2- Ojiseḡ Ọlōhun “ki ikē ati ọla Ọlōhun o maa ba a” tun sọ pe:

« من قال: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَارٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ». [منقوله].

« Ènikèni ti o ba sọ pe: [LAA ILAHA ILLA -L-LAHU WAHADAHU LAA SHAREEKA LAH, LAHU -L-MULK, WA LAHU -L-HAMD, WA HUWA ALAA KULLI SHAIN IN QADEER] lẹmẹwa, oluwaare yoo dabi ẹni ti o bọ okun ẹru kuro ni ọrun merin ninu awọn ọmọ Anabi Isma'eel». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

3- Ojise Ọlọhun "ikẹ ati ọla Ọlọhun k'o maa ba a" tun sọ pe:

« كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ». [منقوله].

« Awọn gbolohun meji ti o fuyẹ lori ahọn, ti o si wuwo lori osunwọn, ti Ọlọhun Ọba Alaaanu si nife si: [SUBHAANA -L-LAHI WA BI HAMDHI SUBHAANA -L-LAHI -L-ADZEEM] ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

4- Ojise Ọlọhun "ikẹ ati ọla Ọlọhun k'o maa ba a" tun sọ pe:

« لأن أقول: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ». »

« Mò bura pe ki n maa wi pe: [SUBHAANA -L-LAH, WA -L-HAMDU LI-L-LAH, WA LAA ILAAHA ILLA -L-LAH, ALLAHU AKBAR] wu mi ju gbogbo ohun ti oorun ran le lori lq». Muslim l'o gbe e jade.

5- Ojise Qlòhun "ike ati òla Qlòhun k'o maa ba a" tun sò pe:

« أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة » فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة ؟، قال: « يسبح مائة تسبيحة، فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة ». [رواه مسلم].

« Njẹ ẹnikan yin yoo wa kaare lati maa se ẹgbẹrun daadaa lojoojumọ bi? ». Ẹnikan ninu awọn ti wọn jokoo pẹlu rẹ si bi i leere pe: Bawo ni ẹnikan ninu wa yoo ti maa se ẹgbẹrun daadaa [lojoojumọ]?; Ojise Qlòhun ni: « Ki o maa se afomọ fun Qlòhun Qba [SUBHAANA-L-LAH] ni igba oḡorun, ki a kọ ẹsan daadaa ẹgbẹrun fun un, tabi ki a pa asise ẹgbẹrun rẹ fun un ». Muslim l'o gbe e jade.

6- Ojise Qlòhun "ike ati òla Qlòhun k'o maa ba a" sò pe:

« من قال: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ؛ غرست له نخلة في الجنة ».

« Ẹnikẹni ti o ba sọ pe: [SUBHAANA-L-LAHI -L-ADZEEMI WA BI HAMDHI] a o gbin igi dẹbiinu kan fun un sinu Al-Janna “ogba idera”». At-Tirmidziyyu l’o gbe e jade.

7- Ojise Ọlọhun “ikẹ ati ọla Ọlọhun k’o maa ba a” tun sọ pe:

« يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كَنْزِ
الْحَنَّةِ؟ »، فقلت: بلى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قال: « قُلْ: لَا حَوْلَ وَلَا
قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ». [مترجمه].

« Iwọ Abdullahi omọ Qais, o yoo wa jẹ ki n tọka si pẹpẹ ọrọ kan ninu awọn pẹpẹ ọrọ Al-Janna -ogba idera- fun ọ bi? ». Ni mo ba ni: Bẹẹ ni iwọ Ojise Ọlọhun, o ni: Sọ pe:[LAA HAWLA WA LAA QUWWATA ILLA BI -L-LAH] ». Bukhari ati Muslim l’o gbe e jade.

8- Ojise Ọlọhun “ikẹ ati ọla Ọlọhun k’o maa ba a” tun sọ pe:

« أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَيَّ اللَّهُ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ؛ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ ». [رواه مسلم].

« Mẹrin ni ọrọ ti Ọlọhun nifẹ si ju: [SUBHAANA -L-LAH. WA -L-HAMDU LI-L-LAH. WA LAA ILAAHA ILLA -L-LAH. ALLAHU AKBAR], kò buru pe ki o bẹrẹ pẹlu eyiyowu ti o ba fẹ ninu wọn ». Muslim l’o gbe e jade.

9- Ara-oko kan wa ba Ojise Ọlọhun “ikẹ ati ọla Ọlọhun k’o maa ba a” o si sọ pe: Kọ mi ni ọrọ kan ti n o maa sọ; Ojise Ọlọhun ni: « Maa sọ pe:

« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
 كَثِيرًا، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ » قال: فهو لاء لربي فما لي ؟ قال: قل: « اللَّهُمَّ
 اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي ». [رواه مسلم].

[LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WAHDAHU LAA SHAREEKA LAH,
 ALLAHU AKBAR KABEERAN, WA -L-HAMDU LI-L-LAHI
 KATHEERAN, SUBHAANA -L-LAHI RABBI -L-AALAMEEN, LAA
 HAWLA WA LAA QUWWATA ILLA BI -L-LAHI -L-AZEEZI -L-
 HAKEEM]

« Kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si
 Ọlọhun nikan soso, kò si orogun kan fun Un, Ọlọhun
 Ọba l’O tobi ju ni titobi, ọpẹ ni fun Ọlọhun Ọba
 lọpọlọpọ, mimọ ni fun Ọlọhun Oluwa gbogbo ẹda,
 kò si ọgbọn kan, bẹẹ ni kò si agbara kan leyin
 Ọlọhun Alagbara Ọlọgbọn ».

Oni-beere ni: Ti Oluwa ni gbogbo awọn gbolohun
 wọnyi i se, ewo ni temi?, Ojise Ọlọhun ni: « Maa sọ
 pe:

[ALLAHUMMA -G-FIR LEE, WA -R-HAMNEE, WA-H-DINEE, WA
 -R-ZUQNEE]

“Ọlọhun fi ori jin mi, kẹ mi, fi ọna mọ mi, rọ mi
 lọrọ” ». Muslim l’o gbe e jade.

10- « Nigba ti ẹnikan ba gba ẹsin Islam, Ojise
 Ọlọhun “ki ike ati ọla Ọlọhun o maa bẹ pẹlu rẹ” a

maa kọ ọ ni irun kiki, leyin naa ni yoo wa pa a lasẹ pe ki o maa se adua pẹlu awọn gbolohun wọnyi:

« اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي. »

[ALLAHUMMA -G-FIR LEE, WA -R-HAMNEE, WA-H-DINEE, WA AAFINEE WA -R-ZUQNEE]

“Ọlọhun dari jin mi, kẹ mi, fi ọna mọ mi, fun mi ni alaafia, rọ mi lọrọ” ». Muslim l’o gbe e jade.

11- Ojise Ọlọhun “ki ike ati ọla Ọlọhun o maa ba a” sọ pe:

« إن أفضل الدعاء: الحمد لله، وأفضل الذكر: لا إله إلا الله ». [رواه الترمذي وابن ماجه].

« Dajudaju eyi ti o lola ju ninu adua ni: [AL-HAMDU LI-L-LAH] -ti o tumọ si pe-: “Gbogbo ọpẹ ti Ọlọhun Ọba ni i se”. Eyi ti o si lola ju ninu iranti “Al-dzikh” ni: [LAA ILAAHA ILLA -L-LAH] -itumọ-: “Kò si ọba kan ti o tọ lati jọsin fun lododo yatọ si Ọlọhun Ọba” ». At-Tirmidziyyu ati Ibn Maajah l’o gbe e jade.

12- Ojise Ọlọhun “ike ati ọla Ọlọhun k’o maa ba a” sọ pe:

« السباقيات الصالحات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله ». [رواه أحمد].

« Awọn daadaa ti wọn maa n seku [fun eniyan] ni: [SUBHAANA -L-LAH, WA -L-HAMDU LI-L-LAH, WA LAA ILAAHA ILLA -L-LAH, WA -L-LAHU AKBAR, WA LAA HAWLA

WA LAH QUWWATA ILLA BI-L-LAH] “Mimọ ni fun Qlọhun Qba, ati pe kò si qba kan t’o tọ lati sin lododo afi Qlọhun Qba, ati pe Qlọhun Qba l’O tobi ju, beẹ ni kò si oqbon kan kò si si agbara kan leyin Qlọhun ». Ahmad l’o gbe e jade.

BAWO NI ANABI WA IKE ATI OLA OLOHUN
K’O MAA BA A TI I MAA N SE TESBEEH –
AFOMO-

Egbawa-orọ yii wa lati ọdọ Abdullahi Ibn Amr, “ki Qlọhun O yonu si awon mejeeji”, o ni:

« رأيت النبي ﷺ يعقد التسبيح بيمينه ». [رواه أبو داود والترمذي].

« Mo ri Anabi “ike ati ọla Qlọhun k’o maa ba a” ti n fi awon koko awon omọ-ika ọwọ rẹ ọtun ka [gbolohun] afomọ “Al-Tesbeeh” ti n se ». Abu-Daa’uud ati At-Tirmidziyyu l’o gbe e jade.

APA KAN NINU AWON OLOKAN-O-JOKAN
OORE ATI AWON EKO TI O KARI

Ojise Qlọhun “ike ati ọla Qlọhun k’o maa ba a” sọ pe:

« إذا كان جنح الليل - أو أمسيتم - فكفوا صيائكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وحمروا آئيتكم

واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئاً، وأطفئوا
مصابيحكم». [متفق عليه].

« Nigba ti ile ba bere si ni su e fi idi awon omu yin
mole [e ma se je ki won o jade], nitori pe awon esu a
maa tan kaakiri ni asiko naa, nigba ti wakati kan
ninu oru ba rekoja e tu won silu, ki e ti awon ilekun
yin ki e si daruko Oluhun -nigba ti e ba n se be-;
tori pe dajudaju esu ki i si ilekun ti o wa ni titi, ki e
si de enu awon awo omi yin, ki e si daruko Oluhun -
nigba ti e ba n se be-, ki e si da oju awon abo yin
dele, ki e si daruko Oluhun -nigba ti e ba n se be-,
koda ki o se wi pe e o dabu nnkan kan le won lori, ki
e si pa awon atupa yin ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

**Ike ati alaafia ati oore Oluhun k'o maa ba Anabi
wa Muhammad ati awon ara ile re pelu awon
Sahaabe re lapapo**



Atọka

Oju-Iwe

Orọ itisiwaju.....	3
Ọla ti n bẹ fun sise iranti Ọlọhun "Al-Dziki"	5
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba ji	12
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba wọ ẹwu tan	18
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba wo asọ tuntun	18
Adua ti a o se fun ẹni ti o wọ asọ tuntun	19
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba n bọ ẹwu rẹ.....	19
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba fẹ wọ ile-igbõnsẹ tabi aye yowu ti o ti fẹ se igbõnsẹ.....	19
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba n jade kuro ni ile-igbõnsẹ, tabi ibiyowu ti o ti se igbõnsẹ.....	20
Adua ibẹrẹ aluwala.....	20
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba pari aluwala	20
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba fẹ jade kuro ni ile	21
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba fẹ wọ ile rẹ.....	22
Adua ti eniyan o se nigba ti ba n lọ si Masalasi.....	23
Adua atiwo Masalasi	25
Adua atijade ni Masalasi	25
Awon ohun ti eniyan yoo maa wi nigba ti wọn ba n perun.....	26
Adua isirun	28
Adua ti eniyan yoo se ni ruku.....	35
Adua ti eniyan o se nigba ti o ba gbe ori soke lati ruku.....	37
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba fi ori kanlẹ	38
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba jokoo laarin iforikanlẹ mejeeji.....	41
Adua ti eniyan yoo se nigba t' o ba fẹ fi ori kanlẹ ni ọkan ninu awon aye ti a ti maa n fi ori kanlẹ nigba ti a ba n ka Al-Qur'aan alaponle	41
Ataaya	42

Asalatu ti eniyan yoo se fun Anabi wa ikẹ ati ọla Ọlọhun k'ọ maa ba a ẹyin ataya	43
Adua ti eniyan o se ẹyin ataya siwaju ki o too salama.....	45
Adua ti eniyan yoo se ẹyin t'ọ ba salama 'ẹyin irun'	52
Adua irun atitoro oore [titoro ọdọ Ọlọhun pe ki O dari ẹni ti o fẹ dawọ le nnkan kan lo sidi ohun ti o loore fun un laye ati lorun].....	58
Awon adua oru ati ti ọsan.....	61
Awon adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba fẹ sun	74
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba yira pada loru	82
Adua ibero oju-oorun, ati ti ẹni ti ba n be ninu didagbe	83
Ohun ti ẹni ti o ba lala ri aburu ni oju-oorun yoo se nigba ti o ba ji	83
Adua iduro [Al-Qunuut] ti irun Witr	84
Adua ti eniyan yoo se ẹyin ti o ba salama ni irun Witr.....	86
Adua aibale-ọkan ati ibanuje.....	87
Adua idaamu	88
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba fẹ pade ọta re, tabi ẹni ti ijoba n be lowo re.....	90
Adua ẹni ti n beru abosi ẹni ti "agbara" ijoba n be lowo re.....	91
Adua lori ọta ẹni.....	93
Ohun ti ẹni ti ba n paya awon kan yoo wi.....	93
Adua ẹni ti iyemeji ba n se igbagbo re	93
Adua atiri gbese san	94
Adua ti ẹni ti n se iroyiroyi ninu irun ati ninu kewu kika lori irun yoo se.....	95
Adua ti ẹni ti nnkan kan ba soro fun yoo se.....	95
Ohun ti ẹni ti o ba desẹ kan yoo wi ati ohun ti yoo se	96
Adua ati le esu ati iroyiroyi re jinna	96
Adua ti eniyan yoo se nigba ti nnkan ti ko fẹ ba se se si i, tabi nigba ti apa re ko ba ka oro ara re mo	97
Biba ẹni ti won bimọ fun yo ati bi yoo ti dahun	97
Ohun ti a o fi maa wa isọ fun awon omode	98

Adua ti eniyan yoo se fun alaare nigba ti o ba be e wo	98
Qla ti n be fun sise abewo alaare	99
Adua alaare ti ko si ireti atisemi fun un mo	100
Ohun ti a o nu eni ti n pokaku	101
Adua eni ti adanwo se	102
Adua ti a o se nigba ti a ba n pa oju oku de.....	102
Adua ti a o se fun oku nigba ti a ba n kirun si i lara	103
Adua ti a o se fun oku ti o ba je omode	106
Adua ibanikedun	108
Adua ti a o se nigba ti a ba n gbe oku sinu saare	108
Adua ti a o se fun oku leyin ti a ba sin in tan.....	109
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba be awon saare wo	109
Adua ti eniyan yoo se nigba ti afefe ba n fe.....	110
Adua ti a o se nigba ti ara ba san	110
Apa kan ninu awon adua itoro ojo.....	111
Adua ti eniyan yoo se nigba ti ojo ba n ro	112
Al-Dzkir "iranti" ti eniyan yoo se leyin ti ojo ba ro tan.....	112
Apa kan ninu awon adua ti a o se nigba ti a ba n fe ki ojo o wawo	112
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba ri osu.....	113
Adua ti alaawe yoo se nigba ti o ba fe sinu	113
Adua ti i siwaju ounje.....	114
Adua ti eniyan yoo se leyin ounje.....	115
Adua ti alejo yoo se fun olounje ti o je.....	116
Adua ti eniyan o se fun eni ti o ba fun un ni-omi mu tabi eni ti o fe fun un ni omi mu	116
Adua ti eniyan yoo se fun awon ti o sinu nile won	117
Adua ti alaawe yoo se nigba ti won ba gbe ounje wa ti o si ko lati ja aawe re	117
Ohun ti alaawe yoo wi nigba ti enikan ba bu u.....	118
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba ri akokojade eso	118
Adua ti eni ti o sin yoo se	118

Ohun ti a o sọ fun alaigbagbọ [Keferi] nigba ti o ba sin ti o si dupe: AL-HAMDU LI-L-LAH.....	119
Adua ti a o se fun ẹni ti o gbeyawo	119
Adua ti ẹni ti o gbeyawo ati ẹni ti o ra ẹranko gungun yoo se	120
Adua ti eniyan yoo se siwaju ki o too ba iyawo rẹ lo pọ	121
Adua ibinu.....	121
Adua ẹni ti o ri ẹnikan ti Ọlọhun fi adanwo kan.....	121
Ohun ti eniyan yoo maa wi nibi ti o ba ti jokoo	122
Adua ti i pa ẹsẹ ti eniyan da nibi ti o ba ti jokoo rẹ	122
Adua ti eniyan yoo se fun ẹni ti o ba sọ fun un pe: [Gafara -L-Lahu laka] Ọlọhun O fori jin ọ	123
Adua ti o se fun ẹni ti o se daadaa si ọ	123
Ohun ti Ọlọhun fi maa N daabo bo ni kuro lọdọ Ad-Dajjaal “opurọ olojukan”	123
Adua ti o se fun ẹni ti o sọ fun ọ pe: [Innee uhibbuka fee -L-Lah] Mo fẹran rẹ nitori Ọlọhun.....	124
Adua ti o se fun ẹni ti o ba koju owo rẹ si ọ [pe ki o mu eyi ti o ba fẹ ninu rẹ]	124
Adua ti ẹni ti o ya eniyan lowo yoo se fun ẹni ti o ya lowo nigba ti o ba san an.....	125
Adua ipaya Ash-Shir’k “isebọ si Ọlọhun”	125
Adua ti eniyan yoo se fun ẹni ti o ba sọ fun un pe: [Baaraka -L-Lahu feek] Ọlọhun O fun ọ lalubarika [oore].....	125
Adua ikorira gbigba ohun asan lasan gbọ pe o le mu ki ibi o se eniyan	126
Adua atigun ohun gungun.....	126
Adua irin-ajo	127
Adua atiwọ ileto tabi ilu nla	129
Adua atiwọ oja	130
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba rẹ ohun ti o gun	131
Adua ti onirin-ajo yoo se fun awon ti yoo fi silẹ	131
Adua ti ẹni ti n bẹ nile yoo se fun onirin-ajo	131
Gbigbe Ọlọhun tobi ati sise afomọ fun un lori irin-ajo.....	132

Adua onirin-ajo ni kutu idaji	132
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba so si aye kan lori ajo tabi nnkan miiran.....	133
Iranti "Ad-Dzikh"pipada lati irin-ajo	133
Ohun ti e ni ti nnkan idunnu tabi ti nnkan ti ko fe ba de si yoo wi.....	134
Qla ti n be fun sise asalatu [titoro ike ati igbe] fun Anabi wa ike ati qla Qlohun k'o maa ba a.....	135
Titan Salama [kiki ara eni ni ti qla] ka	136
Bi a o ti da alaigbagbo [keferi] lohun nigba ti o ba Salama si wa.....	138
Adua ti a o se nigba ti akuko ba ko, ati nigba ti ketekete ba ke.....	138
Adua ti a o se nigba ti a ba gbo gbigbo aja loru	139
Adua ti o se fun eni o ba bu.....	139
Ohun ti Musulumi yoo wi nigba ti yoo ba yin Musulumi	140
Ohun ti Musulumi yoo se nigba ti won ba fo o mo [ti won ba yin in]	140
Bawo ni eni ti o gbe harami fun Haji tabi Umura yoo ti maa wi gbolohun ijeye [Telbiyyah]	141
Gbigbe Qlohun tobi "Allahu Akbar" nigba ti o ba de ibi Al-Hajaru-l-Aswad [okuta dudu ara Ka'abah].....	141
Adua ti eniyan yoo maa se laarin origin Yamaania ati ti okuta dudu "Al-Hajaru-l-Aswad".....	142
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba duro lori Safa ati Marwa	142
Adua ojo Arafa.....	144
Sise iranti Qlohun ni Al-Mash'aru-l-Haraam [ni Muzdalifah]	144
Wiwi gbolohun Allahu Akbar nigba ti a ba n so oko kookan ni ibusoloko [ni Mina].....	145
Adua ti eniyan yoo se nigba ti nnkan kan ba ya a lenu, tabi o dun un ninu.....	146
Ohun ti eni ti nnkan idunnu ba sele si yoo se	146
Ohun ti eni ti n je irora yoo wi	146

Adua ti ɛni ti n bɛru pe ki oun o ma fi oju oun ba nnkan kan jɛ yoo se	147
Ohun ti eniyan yoo maa wi ni asiko ijaya.....	148
Ohun ti eniyan yoo wi nigba ti o ba fɛ duran tabi yoo gunran	148
Ohun ti eniyan yoo wi lati ti ete awon esu alagbere danu.....	148
Itoro aforijin ati ironupiwada	149
ola ti n bɛ fun gbolohun "SUBHAANA -L-LAH", ati "AL-HAMDU LI L-LAH", ati "LAA ILAHA ILLA -L-LAH", ati "ALLAHU AKBAR"	152
Bawo ni Anabi wa ikɛ ati ola Ololahun k'o maa ba a ti i maa n se Tesbeeh -afomɔ-	158
Apa kan ninu awon ololakan-o-jokan oore ati awon ekɔ ti o kari	158
Atoka.....	160



هذه هي المراسم حصن المسلمين

تفسير ابن وهب بن الجراح الباني

بلغتة اليوربا

وكالتة الطنوعات والبحر العلي
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
الملك عبد العزيز آل سعود

١٤٢٩ هـ